

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

\$3

اسلامی تعلیمات

مولانا وحید الدین خاں

MAKTABA AL-RISALA
1439 OCEAN AVE. # 4C
BROOKLYN, N.Y. 11230
TEL: 718-258-3435

مکتبہ الرسالہ، نئی دہلی

ISBN 81-85063-82-6 (PB)
ISBN 81-85063-83-4 (HB)

مطبوعات اسلامی مرکز


جلد حقوق محفوظ

ناشر: کتب الرسالہ سی ۲۹ نظام الدین ویٹ نئی دہلی ۳، فون: 697333، 611128.
مسال اشاعت: ۱۹۸۶
مطبوعہ: راہل آفٹ پرنسپلز دہلی

MAKTABA AL - RISALA
1439 OCEAN AVE. # 4C
BROOKLYN, N.Y. 11230
TEL: 718-3435

فهرست

| صفہ | ۵ | ۱ | آغاز کلام |
|-----|---|----|-----------------|
| ۱۰ | | ۲ | بنیادی مسئلہ |
| ۳۲ | | ۳ | عقیدہ خدا |
| ۳۲ | | ۴ | رسالت |
| ۵۸ | | ۵ | آخرت |
| ۶۸ | | ۶ | ارکان اسلام |
| ۹۰ | | ۷ | آدمی کا امتحان |
| ۹۸ | | ۸ | اسلامی اخلاق |
| ۱۱۲ | | ۹ | اسلامی معاشرہ |
| ۱۲۸ | | ۱۰ | تنظیم |
| ۱۳۶ | | ۱۱ | اسلام کی آفاقیت |



MAKTABA AL - RISALA
1439 OCEAN AVE. # 4C
BROOKLYN, N.Y. 11230
TEL: (718) 248-3435

اغازِ کلام

ہر آدمی کی ایک سوچ ہوتی ہے جس کے تحت وہ زندگی اور کائنات کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے۔ پھر اسی سوچ کے مطابق وہ کسی چیز کو سب سے اوپری جگہ دیتا ہے اور اس کو اپنی عقیدتوں اور توجہات کا مرکز بناتا ہے۔ پھر اسی کے مطابق وہ ماحول کے اندر اپنا عمل کرتا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو عقیدہ، عبادت اور کردار کہہ سکتے ہیں۔ انہیں تینوں چیزوں کے مجموعہ کا نام دین ہے اور اس اعتبار سے ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی دین ہوتا ہے، خواہ وہ خدا پرست ہو یا غیر خدا پرست۔

اسلام یہ ہے کہ آدمی اس حقیقت واقعہ کو پالے کہ اس دنیا کے پچھے ایک قادر مطلق کا ارادہ کام کر رہا ہے۔ وہی اس کا خالق و مالک ہے۔ اسی کے یہاں ہر ایک کا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ صحیح وہ ہے جو اس کے نزدیک صحیح ٹھہرے اور غلط وہ ہے جو اس کے یہاں غلط قرار پائے۔

اس حقیقت کا پاناسی کسی ریاضیاتی فارمولے کا پانا نہیں ہے۔ وہ بندے کا اپنے خدا کو پانا ہے۔ یہ ”بے کچھ“ کا ”سب کچھ“ کو پالینا ہے۔ اس نے جو آدمی اس حقیقت کو پالے وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ ایک اور ہی انسان بن جاتا ہے۔ اس کی زندگی ایک ربانی سمندر ہیں نہ اٹھتی ہے۔ یہ ایک ایسی دریافت ہوتی ہے جو اس کے دل و دماغ کو پوری طرح اپنی

پکڑ میں لے لیتی ہے۔ اس کا دیکھنا اور سننا خدا کی نظر سے دیکھنا اور سننا بن جاتا ہے۔ اس کے فکر و خیال کی دنیا اگر اب تک تاریک تھی تو اب اس کے اندر ایک نیا آفت اب جل اٹھتا ہے جو اس کی پوری ہستی کو روشن کر دیتا ہے۔

اس نفسیاتی یافت کا قدرتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم تن خدا کا ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی یاد میں جیسے لگتا ہے۔ وہ اپنی ہستی کو اس کے مقابلہ میں کھو دیتا ہے۔ وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کے آگے جھک جاتا ہے۔

بھروس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے درمیان اس کا سلوک ایک بندۂ خدا کا سلوک بن جاتا ہے۔ جہاں لوگ انا نیت دکھاتے ہیں وہاں وہ متواضع بن جاتا ہے۔ جہاں لوگ انتقامی کارروائی کرتے ہیں وہاں وہ معاف کر دیتا ہے۔ جہاں لوگ ظلم پر اتر آتے ہیں وہاں وہ انصاف پر قائم رہتا ہے۔ جہاں لوگ اپنی ذات کے لئے کٹ جاتے ہیں وہاں وہ حق کی خاطر جڑ جاتا ہے۔ جہاں لوگ خود پاکِ مطمئن ہو جاتے ہیں وہاں وہ دوسروں کو دینے کی فکر کرتا ہے۔ جہاں لوگ دنیا کی رونقون کی طرف دوستی ہیں وہاں وہ آخرت کی چیزیں دنیا میں اپنے کو گم کر دیتا ہے۔ یہی وہ کچی زندگی ہے جو پیغمبر کے ذریعہ انسان کو بستائی گئی ہے۔

جو لوگ اس طرح ایک خدا کو اپنالیں وہ فطری طور پر باہم جڑ کر ایک ہو جاتے ہیں۔ وہ اس بھلائی کو دوسروں نکل بھی پہنچانے لگتے ہیں جس کو انہوں نے اپنے لئے اختیار کیا ہے۔ ان کی باہر کی زندگی ان کی اندر ونی زندگی کا عکس بن جاتی ہے۔

کوئی آدمی دولت کے لئے جیتا ہے، کوئی عزت کے لئے، کوئی اقتدار کے لئے۔
ہر آدمی، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، کسی نہ کسی چیز میں جی رہا ہے۔ ہر آدمی کی زندگی میں

کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کے سہارے وہ زندہ ہو۔ جس کو وہ سب سے زیادہ قابلِ لحاظ سمجھے۔ جس کو حاصل کرنے کا خواب دیکھے۔ جس کے لئے دوڑ دھوپ کرے۔ اس کی امیدیں اور اس کے اندریشے، اس کی تمنائیں اور اس کی حسرتیں سب سے زیادہ اس سے والبستہ ہوں۔ اس کو پا کر وہ سب سے زیادہ خوش ہوا اور اس کے چھنٹے کا ڈر ہو تو وہ سب سے زیادہ غم گین ہو جائے۔

یہی دین ہے۔ اس معنی میں ہر شخص کا ایک دین ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص اس قسم کے ایک دین سے نالی نہیں۔ آدمی جس چیز کو اپنا ”دین“ بنائے اسی کے مطابق اس کی پوری زندگی بتتی ہے۔ اس کی سوچ اور جذبات، اس کا لین دین، اس کے انسانی تعلقات، اس کی سرگرمیاں اور کارروائیاں سب اسی کے گرد گھومتی ہیں۔ وہ اس کام کو کرتا ہے جس سے اس کا مقصود ملنے والا ہو، اس کام سے دور بھاگتا ہے جس سے اپنے مقصود کو نقصان پہنچ جانے کا اندیشہ ہو۔ یہی دین اس کا حاکم ہوتا ہے۔ سوتے جاتے ہر حال میں وہ اسی دین کو پکڑتے رہتا ہے۔ اس کی زندگی کا کوئی گوشہ اس کے اثر سے خالی نہیں ہوتا۔


یہ دین خدا کا بھی ہو سکتا ہے اور غیر خدا کا بھی۔ موجودہ دنیا میں یہی امتحان ہے کہ آدمی کون سادین اختیار کرتا ہے۔ خدا کا یا غیر خدا کا۔ یہاں ہر شخص کو آزادی ہے۔ یہاں غیر خدا کے دین کو پکڑ کر بھی آدمی عزت اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ مگر یہ کامیابی بالکل وقتی ہو گی۔ وہ زیادہ سے زیادہ موت تک آدمی کا ساتھ دے گی۔ اس کے بعد انہی متنقل دنیا میں وہ اس حوال میں اٹھے گا کہ وہ بالکل خالی ہا نہ ہو گا۔ اگلی دنیا میں خدا اپنے قدرت اور جلال کے ساتھ نلا ہر ہو چکا ہو گا۔ اس لئے وہاں عزت اور کامیابی

صرف اس شخص کے لئے ہوگی جس نے موجودہ دنیا میں خدا کے دین کو اپنا دین بنایا ہوگا۔ جو کسی دوسرے دین کو اختیار کرے گا، اس کے لئے موت کے بعد آنے والی دنیا میں ناکامی و بربادی کے سوا اور کچھ نہیں۔

خدا کا دین ہی انسان کے لئے فطری اور حقیقی دین ہے۔ یہ حقیقت ڈر کے لمحات میں کھل جاتی ہے۔ آدمی خواہ کوئی بھی دین اختیار کرے۔ خواہ وہ کوئی بھی سہارا پکڑے، مگرجب انسان کی زندگی کا جہاز کسی بھنوں میں پھنسنا ہے، جب اس پر کوئی نازک لمحہ آ جاتا ہے، اس وقت اس کو تمام چیزیں بھول جاتی ہیں۔ اس وقت وہ بے اختیار ہو کر ایک خدا کو پکارنے لگتا ہے۔ یہ تجربہ جو کبھی نہ کبھی ہر شخص کی زندگی میں گز رتا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حقیقی دین صرف خدا کا دین ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ اسی کو اپنی زندگی کا دین بنائے۔ اس کے سوا وہ جس دین کو بھی پکڑے گا وہ وقت آنے پر اسی طرح بے حقیقت ثابت ہو گا جیسے آج نازک لمحات میں تمام چیزیں بے حقیقت ثابت ہو جاتی ہیں۔ آج کے حالات میں فطرت کی پکار آئندہ آنے والی مستقبل دنیا کا ایک اشارہ ہے۔ وہی شخص کا بیاب ہے جو اس اشارہ پر کان لگائے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنالے۔



پذیرای مسئلہ



بنیادی مسئلہ

اگر کسی مجلس میں یہ سوال اٹھایا جائے کہ آج انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو مختلف لوگ اس کا مختلف جواب دیں گے۔ کوئی کہے گا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایسی ہی تھیاروں کا تجربہ بند کیا جائے، کوئی دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کو سب سے بڑا مسئلہ قرار دے گا۔ کوئی کہے گا کہ پیداوار اور تقسیم کے نظام کو درست کرنا یہ موجودہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ عرض طرح کے بوابات سنائی دیں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان ابھی انسان کو نہیں جانتا اگر وہ اپنے آپ کو جانتا تو سب کے بوابات ایک ہوتے۔ سب یہ کہتے کہ آج انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو بھول گیا ہے۔ وہ اس حقیقت سے غافل ہے کہ اسے ایک روز مرتا ہے اور مرنے کے بعد اپنے مالک کے پاس حساب کتاب کیلے جانا ہے۔ اگر ہم زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیں تو ہم دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کو اپنا اصل مسئلہ قرار دیں گے۔

آج بھی دنیا کے بیشتر انسان خدا اور آخرت کو مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے منکر ہو گئے ہوں۔ مگر اس ملنے کا کوئی تعلق ان کے عمل سے نہیں ہے۔ حقیقی زندگی میں ہر شخص کے سامنے صرف یہ سوال ہے کہ وہ اپنی آج کی دنیا کو کس طرح کامیاب بنائے۔ اگر ہماری

رصد گاہیں کسی روزیہ اعلان کر دیں کہ زمین کی قوت کشش نتم ہو گئی ہے اور وہ چھ ہزار میل
فی گھنٹے کی رفتار سے سورج کی طرف کھپی جا رہی ہے تو ساری دنیا میں کہرام پج جائے گا۔ کیونکہ
اس طرح کی ایک خبر کے معنی یہ ہیں کہ چند ہفتوں کے اندر روئے زمین سے ہر قسم کی زندگی کا
خاتمہ ہو جائے۔

مگر یہ دنیا ہر آن ایک اس سے زیادہ شدید خطرے سے دوچار ہے اور کوئی نہیں جو
اس سے گھرانے کی ضرورت محسوس کرتا ہو۔ یہ خطرہ کیا ہے؟ یہ قیامت کا خطرہ ہے جو زمین
و آسمان کی پیمائش کے روز ہی سے اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے۔ اور جس کی طرف ہم سب
لوگ ہنایت تیزی سے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ عقیدہ کی حد تک سبھی لوگ اس کو تسلیم کرتے
ہیں۔ مگر ایسے لوگ بہت کم ہیں جو فی الواقع اس کے بارے میں سمجھ دیتے ہیں کہ سوچنے کی
ضرورت محسوس کرتے ہوں۔

اگر آپ شام کے وقت کسی کھلے ہوئے بازار میں کھڑے ہو جائیں اور وہاں دیکھیں کہ
لوگ کس لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آج کے انسان کس چیز کو
اپنا اصل مسئلہ بنائے ہوئے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے بھرے ہوئے بازار میں موڑوں کی آمد و رفت
کس لیے ہو رہی ہے، دکان دار کس لیے اپنی دکانیں سجائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ انسانوں کے
غول کے غول کہاں آتے جاتے نظر آتے ہیں۔ لوگوں کی بات چیت کا موضوع کیا ہے اور
ایک دوسرے کی ملاقات کس عرض سے ہو رہی ہے، کن چیزوں سے لوگ دل چپی لے رہے
ہیں۔ ان کی بہترین صفاتیں اور ان کی جیب کے پیسے کس مقصد کے لیے خرچ ہو رہے ہیں۔ جو
خوش ہے وہ کیا چیز پا کر خوش ہے اور جو چہرے اُداس نظر آتے ہیں، کس چیز کی محرومی نے
انہیں اُداس بنادیا ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے کیا چیز لے کر نکلے ہیں اور کیا چیز نے کروا پس

جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی مصروفیتوں سے، ان کے سخن سے نکلی ہوئی آوازوں سے، ان کی مختلف حرکات و سکنات سے ان سوالات کا جواب معلوم کر سکیں تو اسی سے آپ کو اس سوال کا جواب بھی معلوم ہو جائے گا کہ آج کا انسان کس چیز کو اپنا اصل مسئلہ سمجھتا ہے اور کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ بازاروں کی چیل پہل اور مصروف ترین سڑکوں پر انسانوں کی مسلسل آمد و رفت پکار رہی ہے کہ آج کا انسان اپنی خواہشوں کے پیچے دوڑ رہا ہے۔ وہ آخرت کو نہیں بلکہ صرف دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ خوش ہے تو اس یہ خوش ہے کہ اس کی دینیوی تمنائیں پوری ہو رہی ہیں۔ اگر وہ غمگین ہے تو اس یہ غمگین ہے کہ اس کی دینیوی خواہشیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتیں۔ آج کی ضرورتیں، آج کا آرام، آج کی عزت، آج کے موقع، بس انہیں کو پالیں کا نام لوگوں کے نزدیک کامیابی ہے۔ اور انہیں سے معروف رہنے کا نام لوگوں کے نزدیک ناکای۔ یہی وہ چیز ہے جس کے پیچے سارا انسانی قائلہ بھاگ چلا جا رہا ہے۔ کسی کو بھی آنے والے دن کی فنکر نہیں۔ ہر شخص بس آج کے پیچے دیوانہ ہو رہا ہے۔

صرف بڑے بڑے شہروں کا یہ حال نہیں ہے بلکہ جہاں بھی چند انسان بیتے ہیں اور کچھ چلتے پھرتے لوگ موجود ہیں، ان سب کا یہی حال ہے۔ آپ جس کسی کو دیکھتے وہ اسی کے خیال میں ڈوبا ہو انتظار آئے گا۔ مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، بوڑھا ہو یا جوان، جاہل ہو یا عالم، شہری ہو یا دیہاتی حتیٰ کہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی سب کے سب اسی ایک سمت میں بھاگ چلے جا رہے ہیں۔ آج آدمی کی سب سے بڑی تمنا صرف یہ ہے کہ دنیا میں وہ جتنا کچھ حاصل کر سکتا ہے حاصل کر لے۔ اسی کو وہ اپنے نیے "کام" سمجھتا ہے۔ اسی کے لیے اپنے بہترین اوقات

اور بہترین صلاحیتوں کو صرف کرتا ہے۔ اسی کی فکر میں رات دن مشغول ہے۔ حدیہ ہے کہ اگر ضمیر اور ایمان بھی اس دیوی کی نذر کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے خواہ وہ جس طرح بھی ہے۔

مگر اس طرح کی ہر کامیابی صرف دنیا کی کامیابی ہے۔ آخرت میں وہ بالکل کام نہیں دے سکتی۔ جو شخص صرف اپنی آج کی دنیا بنانے کی فکر میں ہے اور آخرت کی طرف سے غافل ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنی جوانی میں اپنے بڑھاپے کے لیے جمع نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ جب اس کی قوتیں جواب دے دیتی ہیں اور وہ کام کرنے سے معدود ہو جاتا ہے۔ تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کا کوئی محکما نہیں ہے۔

وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس مکان نہیں ہے مگر اب وہ اپنا مکان نہیں بناسکتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس موسموں سے بچنے کے لیے کپڑا اور بستہ مہیا کر سکے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے مگر اب وہ اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ حسرت کے ساتھ کسی دیوار کے سایہ میں چھپتا پیٹھے ہوئے پڑا رہتا ہے جس پر کئے بھونکتے ہیں اور لڑکے کنکریاں مارتے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے اس طرح کی مثالیں دیکھتے ہیں جس سے ایک ہلکا اندازہ ہو سکتا ہے کہ آخرت کی کسانی نہ کرنے والے کے لیے آخرت کی زندگی کیسی ہوگی۔ مگر اس کے باوجود ہمارے اندر کوئی کھلبی پیدا نہیں ہوتی۔ ہم میں کا ہر شخص صرف اپنے آج کی تعیر میں مصروف ہے وہ اپنے کل کی کوئی فکر نہیں کرتا۔

جنگ کے زمانے میں جب ہوائی حملے کا سارے بجتا ہے اور اپنی مہیب آواز سے یہ اعلان کرتا ہے کہ ”دشمن کے ہوانی جہاز آتیں بکوں کو لیے ہوئے عوں در عوں چلے آرہے ہیں

مستقبل محفوظ کرنے کے لیے تو وہ ساری عمر لگا دیتے ہیں مگر جو مستقبل خود ان کے سامنے آنے والا ہے اس کی تعمیر کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے۔ گویا ان کے مرنے کے بعد صرف ان کے پھوپھو کا وجود باقی رہے گا، خود ان کا کوئی وجود نہ ہو گا جس کے لیے انہیں تیاری کرنے کی ضرورت ہو۔

اس انداز میں لوگوں کا سوچنا یہ بتاتا ہے کہ انہیں شاید اس کا احساس نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے بلکہ اصل زندگی مرنے کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ اگر انہیں اس بات کا یقین ہوتا کہ مر کر جب وہ قبر میں دفن ہوتے ہیں تو درحقیقت وہ دفن نہیں ہوتے بلکہ ایک دوسری دنیا میں داخل کر دیتے جاتے ہیں۔ تو وہ بچوں کے مستقبل کے بارے میں نکر مند ہونے سے پہلے یہ سوچتے کہ "مرنے کے بعد میرا کیا الجام ہو گا؟" حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دنیا کا بیشتر ان خواہ وہ نہ ہی ہو یا غیر نہ ہی، اس یقین سے خالی ہو گیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا بلکہ نئی زندگی حاصل کرتا ہے۔ ایک ایسی زندگی جو موجودہ زندگی سے زیادہ حقیقی ہے، جو موجودہ زندگی سے زیادہ اہم ہے۔ موت کے بعد آنے والی زندگی کے بارے میں شبہ دو وجوہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ ہر انسان مر کر مٹی میں مل جاتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان مر کر ختم ہو گیا تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ دوبارہ کس طرح زندگی پائے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ موت کے بعد بودنیا ہے وہ ہم کو نظر نہیں آتی۔ آج کی دنیا کو تو ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے مگر اس کے بعد والی دنیا کو اب تک کسی نے نہیں دیکھا۔ اس لیے ہم کو یقین نہیں آتا کہ اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہو سکتی ہے۔ آئیے ان دونوں سوalon پر غور کریں۔

موت کے بعد زندگی

”جب میں مر کر مٹی ہو جاؤں گا تو کیا مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا؟“ اس سوال کو اس طرح متعین کر کے تو بہت کم لوگ سوچتے ہیں مگر ہر وہ شخص جو اس بات پر گھرا یقین نہیں رکھتا کہ مرنے کے بعد اسے ایک نئی زندگی سے سابقہ پیش آنے والا ہے، اس کے ذہن میں ضرور یہ سوال دباؤ رہتا ہے۔ جو شخص آج کی زندگی میں کل کی زندگی کے بیے فکر نہیں ہے وہ اس بات کا ثبوت پیش کر رہا ہے کہ وہ کل کی زندگی کے متعلق شبہ میں مستلا ہے۔ خواہ وہ باقاعدہ اس سلسلے پر سوچتا ہو یا نہ سوچتا ہو۔

لیکن اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں تو نہایت آسانی سے اس کی حقیقت سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ موت کے بعد پیش آنے والی حقیقتوں کو ہماری لگاہوں سے چھاپ دیا ہے کیوں کہ وہ ہمارا امتعان لے رہا ہے، مگر کائنات میں ایسی بے شمار نشانیاں پھیلادی گی ہیں جن پر غور کر کے ہم تمام حقیقتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کائنات ایک آئینہ ہے جس میں دوسری دنیا کا عکس نظر آتا ہے۔

آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی موجودہ شکل میں اول روز سے موجود نہیں ہیں۔ انسان کی ابتدا ایک بے شکل حقیر مادے سے ہوتی ہے جو ماں کے پیٹ میں بڑھ کر انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور پھر باہر اگر مزید ترقی کر کے پورا انسان بن جاتا ہے۔ ایک بے شور اور حقیر مادہ جو اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ غالی انکھ سے دیکھا نہیں جاسکتا، اس کا بڑھ کر چھٹے فٹ لمبا انسان بن جانا ایک ایسا واقعہ ہے جو روزانہ اس دنیا میں پیش آتا ہے۔ پھر یہ سمجھنے میں آپ کو کیا دقت پیش آتی ہے کہ ہمارے جسم کے اجزاء جو نہایت چھوٹے چھوٹے ڈڑات بن کر زمین میں منتشر ہو جائیں گے، دوبارہ وہ پورے انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔

ہر انسان جس کو آپ آج چلتا پھرتا دیکھتے ہیں وہ دراصل انسان کی شکل میں بے شمار ایم ہیں جو پہلے ہماری زمین اور ہماری فنا کے اندر نامعلوم و سعتوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ پھر ہوا، اور پانی اور خوار کے ان ایمبوں کو لا کر ایک انسانی وجود میں لکھا کر دیا اور اب ہم انہیں منتشر ایمبوں کے مجموعے کو ایک چلتے پھرتے انسان کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ یہی عمل دوبارہ ہوگا۔ ہمارے مرنے کے بعد ہماری زندگی کے اجزاء ہوا اور پانی اور زمین میں منتشر ہو جائیں گے اور اس کے بعد جب خدا حکم ہو گا تو وہ اسی طرح لکھا ہو کر ایک وجود کی شکل میں مجسم ہو جائیں گے جس طرح وہ پہلی بار مجسم ہوئے تھے۔ ایک واقعہ جو ہو چکا ہے وہی اگر دوبارہ نہ ہو میں آئے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے۔

خود ماذی دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں جو اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ زندگی کو دوسری بار دُھرا یا جا سکتا ہے۔ ہر سال برسات میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمین ہیں سبزہ الگتا ہے اور ہر طرف ہر یاں پھیل جاتی ہے پھر گرمی کا زمانہ اس کے لیے موت کا پیغام بن کر آتا ہے اور ساری زمین خشک ہو جاتی ہے۔ جہاں سبزہ اہلیا رہا تھا وہاں پھیل میدان دکھانی دینے لگتا ہے۔ اس طرح ایک زندگی پیدا ہو کر مر جاتی ہے۔ لیکن الگی بار جب برسات کا موسم آتا ہے اور آسمان سے بارش ہوتی ہے تو وہی مرے ہوئے سبزے دوبارہ جی اٹھتے ہیں اور خشک زمین پھر سبزہ زار نظر آنے لگتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔

ایک اور پہلو سے دیکھئے۔ زندگی بعد موت کے بارے میں شہہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنا تصوّر موجودہ جسمانی وجود کی شکل میں کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خارج میں جو ایک چلتا پھرتا جسم دکھانی دیتا ہے میں یہی اصل انسان ہے اور جب یہ سڑگل جائے گا اور اس کے

اجزاءِ مٹی میں مل پچھے ہوں گے تو اس کو دوبارہ کس طرح جسم کر کے کھڑا کیا جاسکتا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک زندہ انسان کی موت آتی ہے، وہ خاموش ہو جاتی ہے، اس کی حرکت رُک جاتی ہے۔ اس کی تمام صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین کے نیچے دبایا جاتا ہے یا بعض قوموں کے رواج کے مطابق جلا کر دریا میں بہادیا جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ریزے ریزے ہو کر اس طرح زمین کا جزء بن جاتا ہے کہ پھر اس کا کوئی وجود نہیں ظہر نہیں آتا ایک زندہ انسان کو اس طرح ختم ہوتے ہوئے ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ پھر ہماری سمجھیں نہیں آتا کہ یہ انسان جو ختم ہو چکا ہے وہ دوبارہ کیسے موجود ہو جائے گا۔

مگر ہمارا اصل وجود ہمارا یہ جسم نہیں ہے جس کو ہم بظاہر چلتا پھرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ بلکہ اصل وجود وہ اندرورنی انسان ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ جو سوچتا ہے، جو جسم کو متحر رکھتا ہے، جس کی موجودگی جسم کو زندہ رکھتی ہے اور جس کے نکل جانے کے بعد جسم توباتی رہتا ہے مگر اس میں کسی قسم کی زندگی نہیں پائی جاتی۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان کسی مخصوص جسم کا نام نہیں ہے بلکہ اس روچ کا نام ہے جو جسم کے اندر موجود ہوتی ہے۔ جسم کے متعلق ہم کو معلوم ہے کہ یہ بہت سے انتہائی چھوٹے چھوٹے ریزوں سے مل کر بنتا ہے۔ جس کو زندہ خلیہ (Living cell) کہتے ہیں۔ ہمارے جسم میں خلیوں کی وہی حیثیت ہے جو کسی مکان میں اس کی اینٹوں کی ہوتی ہے۔ ہمارے جسمانی مکان کی یہ اینٹیں یا اصطلاحی زبان میں خلیے ہماری حرکت اور ہمارے عمل کے دوران میں برابر ٹوٹتے رہتے ہیں جس کی کمی ہم غذا کے ذریعے پوری کرتے ہیں۔ غذا ہضم ہو کر یہی مختلف قسم کے خلیے بناتی ہے جو جسم کی ٹوٹ پھوٹ کو مکمل کر دیتے ہیں۔ اس طرح انسان کا جسم مسلسل گھستا اور بدلتا رہتا ہے۔ پچھلے خلیے ٹوٹتے ہیں اور نئے خلیے ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ یہ عمل ہر روز

ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ کچھ عرصے کے بعد سارے کاسارا جسم بالکل نیا ہو جاتا ہے۔

یہ عمل اوسط دس سال میں مکمل ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کا جو جسم دس سال پہلے تھا اس میں آج کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ آج آپ کا جسم ایک نیا جسم ہے۔ دس سال کے عرصے میں آپ کے جسم کے جو حصے ٹوٹ کر الگ ہوتے ہیں، اگر ان کو پوری طرح یکجا کیا جاسکے تو بعینہ آپ کی شکل کا ایک دوسرا انسان کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کی عمر سو سال ہو تو آپ ہی جیسے تقریباً دس انسان بنائے جاسکتے ہیں۔ یہ انسان بظاہر دیکھنے میں آپ کی طرح ہوں گے مگر وہ سب کے سب مردہ جسم ہوں گے۔ جن کے اندر "آپ" موجود نہیں ہوں گے۔ کیوں کہ آپ نے پچھلے جسموں کو چھوڑ کر ایک نئے جسم کو اپنا قابل بنایا ہے۔

اس طرح آپ کا جسم بنتا بگڑتا رہتا ہے مگر آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جس چیز کو آپ "میں" کہتے ہیں وہ بدستور باقی ہے۔ آپ نے اگر کسی سے دس سال پہلے ایک معاهده کیا تھا تو آپ ہر وقت تسلیم کرتے ہیں کہ یہ معاهدہ "میں" نے کیا تھا۔ حالانکہ اب آپ کا پچھلا جسمانی وجود باقی نہیں ہے۔ وہ ہاتھ اب آپ کے جسم پر نہیں ہے جس نے معاهدے کے کافی نتائج پر دستخط کئے سکتے اور نہ وہ زبان موجود ہے جس نے معاهدے کی بابت گفتگو کی تھی۔ لیکن "آپ" اب بھی موجود ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ کس سال پہلے جو معاهدہ میں نے کیا تھا وہ میرا ہی معاهدہ تھا اور اب بھی میں اس کا پابند ہوں یہی وہ اندر وی انسان ہے جو جسم کے ساتھ بدلتا نہیں بلکہ جسم کی کتنی ہی تبدیلیوں کے باوجود اپنے آپ کو باقی رکھتا ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ انسان کسی خاص جسم کا نام نہیں ہے جس کے مرنسے انسان بھی مر جائے۔ بلکہ وہ ایک ایسی روح ہے جو جسم سے الگ اپنا وجود رکھتی ہے اور جسم کے اجزاء منتشر ہونے کے بعد بھی بدستور باقی رہتی ہے۔ جسم کے بدلتے اور روح کے نبدلتے نہیں

اس حقیقت کا صاف اشارہ موجود ہے کہ جسم فانی ہے مگر روح فانی نہیں۔
 بعض نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندگی اور موت نام ہے کچھ مادی اجزاء کے کھٹے ہونے
 اور پھر منتشر ہو جانے کا، ان اجزاء کے ملنے سے زندگی بنتی ہے اور ان کے الگ ہو جانے سے
 موت واقع ہوتی ہے۔ اسی نظریہ کو چکبست نے ان لفظوں میں ادا کیا ہے:

زندگی کیا ہے عناصر میں ظہورِ ترتیب

موت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشان ہونا

مگر یہ ایک ایسی بات ہے جس کا علم سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر زندگی بعض "عناصر میں ظہورِ ترتیب" کا نام ہے تو اس کو اس وقت تک باقی رہنا چاہیے جب تک عناصر کی یہ ترتیب موجود ہے اور یہ بھی ممکن ہونا چاہیے کہ کوئی ہوشیار سائنس دان ان عناصر کو یہ کہ کے زندگی پیدا کر سکے۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں ناممکن ہیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ مرنے والوں میں صرف وہی نہیں ہیں جن کو کوئی ایسا حادثہ پیش آئے جو ان کے جسم کے بخوبی کر دے۔ بلکہ ہر حالت میں اور ہر عمر کے لوگ مرتے ہیں۔ بعض مرتبہ تو اچھے خاصے تدرست انسان کے دل کی حرکت یا کیا اس طرح بند ہو جاتی ہے کہ کوئی ڈاکٹر بتا نہیں پاتا کہ ایسا کیوں ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مرنے والے کا جسم اپنی سابقہ حالت میں لیٹا ہوا ہے دوسرے لفظوں میں "عناصر کا ترتیبی ظہور" مکمل طور پر موجود ہے۔ مگر اس کے اندر جو روح سُختی وہ نکل چکی ہے۔ سارے عناصر اسی خاص ترتیب کے ساتھ اب بھی موجود ہوتے ہیں جو اسے چند منٹ پہلے تھے مگر اس کے اندر زندگی موجود نہیں ہوتی۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ مادی عناصر کی ترتیب زندگی پیدا نہیں کرتی بلکہ زندگی اس سے الگ ایک چیز ہے جو اپنا مستقل وجود رکھتی ہے۔

کسی لیبارٹری میں زندہ انسان نہیں بنایا جاسکتا اگرچہ جسم کی شکل ہر وقت بنائی جاسکتی ہے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ زندہ جسم کے اجزاء بالکل معمولی کیمیا وی ایٹم ہوتے ہیں۔ اسیں کاربن وہی ہے جو ہم کالک میں دیکھتے ہیں۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن وہی ہے جو پانی کی اصل ہے۔ ناٹریجن وہی ہے جس سے کرۂ ہوا کا پیشتر حصہ بناتے ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیزیں۔ مگر کیا ایک زندہ انسان مصنع معمولی ایٹموں کا ایک خاص مجموعہ ہے جو کسی غیر معمولی طریقے سے ترتیب دے دیا گیا ہے۔ یا وہ اس کے علاوہ کچھ اور ہے۔

سانس داں کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان کا جسم فلاں فلاں مادی اجزاء سے مل کر بناتا ہے۔ مگر انہی اجزاء کو یہ جگہ کر کے ہم زندگی پیدا نہیں کر سکتے۔ دوسرے لفظوں میں ایک زندہ انسان کا جسم مصنع بے جان ایٹموں کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ وہ ایٹم اور زندگی دونوں ہے۔ مرنے کے بعد ایٹموں کا مجموعہ تو ہمارے سامنے موجود رہتا ہے مگر زندگی اس سے نہ صحت ہو کر دوسری دنیا میں چلی جاتی ہے۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زندگی مٹنے والی چیز نہیں ہے۔ بلکہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی بعد موت کا نظریہ کس تدریجی اور فطری نظریہ ہے۔ یہ حقیقت پکار رہی ہے کہ زندگی صرف وہی نہیں ہو سکتی جو موت سے پہلے نظر آتی ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی ہمیں زندہ رہتا چاہیے۔ ہماری عقل تسلیم کرتی ہے کہ یہ دنیا اور اس کی عمر فانی ہے مگر انسان ایک ایسا وجود ہے جو اس کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ جب ہم مرتے ہیں تو درحقیقت ہم مرتے ہمیں بلکہ زندہ رہنے کے لیے دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ موجودہ زندگی ہماری مسلسل عمر کا مصنع ایک مختصر و قصہ ہے نہ کہ مکمل عمر کی انہما۔

دوسری دنیا

اب اس سوال پر غور کیجئے کہ دوسری زندگی کیسی ہوگی۔ خدا کے رسول کہتے ہیں کہ وہاں جتنے اور دوزخ ہے۔ ہر شخص جو مرتا ہے وہ ان دو میں سے کسی ایک کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ جو شخص آج کی دنیا میں خدا کا فرمان بردار ہو گا اور نیک عمل کرے گا اس کو جنت کی آرامگاہ میں جگہ لے گی اور جو بذردار اور خدا کا نافرمان ہو گا اس کو جہنم کی تکلیفوں میں ڈالا جائے گا۔

اس کو سمجھنے کے لیے اس حقیقت پر غور کیجئے کہ انسان جو کام بھی کرتا ہے اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ایک واقعہ ہے جیسے کہ بہت سے واقعات ہوتے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ وہ کسی خاص ارادے کے تحت کیا گیا ہے۔ پہلی حیثیت کو ہم واقعاتی کہہ سکتے ہیں اور دوسری کو اخلاقی۔ ایک مثال سے اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔

اگر کسی درخت پر کوئی پتھر اٹکا ہوا ہو، آپ اس کے نیچے سے گزریں اور یک ایک پتھر آپ کے اوپر گر پڑے اور آپ کا سر ٹوٹ جائے تو آپ درخت سے رٹاں نہیں کریں گے نہ اس پر خفا ہوں گے بلکہ خاموشی سے اپنا سر پکڑے ہوئے گھر بدلے جائیں گے۔ اس کے بعد اسکو آدمی جان بوجھ کر آپ کے اوپر ایک پتھر کھینچ مارے جس سے آپ کا پھرہ زخمی ہو جائے تو آپ اس پر برس پڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا سر توڑ ڈالیں جس طرح اس نے آپ کا سر توڑا ہے۔ درخت اور انسان میں یہ فرق کیوں ہے۔ کیوں آپ درخت سے بدلہ نہیں لیتے اور انسان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ درخت اس احساس و شعور سے خالی ہے جو انسان کو حاصل ہے۔ درخت کا عمل صرف واقعاتی نوعیت رکھتا ہے۔ جب کہ انسان کا عمل واقعاتی اور اخلاقی دونوں ہے۔

اس سے ظاہر ہوا کہ انسان کے عمل کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی وجہ سے کوئی

واعمر دنیا میں ظاہر ہوا۔ دوسرے یہ کہ وہ عمل جائز تھا یا ناجائز۔ صحیح جذبے سے کیا گیا تھا یا غلط جذبے سے۔ اس کو ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جہاں تک عمل کی پہلی حیثیت کا تعلق ہے اس کا پورا انجام اسی دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ مگر اس کی دوسری حیثیت کا انجام اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا۔ اور کبھی ظاہر ہوتا ہے تو ہمایت ناقص شکل میں۔

جس شخص نے آپ کو پھر بارا اس کے عمل کا یہ انجام تو فوراً ظاہر ہو گیا کہ آپ کا سرٹوٹ گیا مگر اس کے عمل کا دوسرا پھر کہ اس نے اپنی قوتون کا غلط استعمال کیا اس کا انجام ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس نے چاہا تھا کہ سرتوڑے اور سرٹوٹ گیا۔ اس نے چاہا تھا کہ ایک غلط کام کرے مگر اس کے اس دوسرے ارادہ کا کوئی نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آیا۔ نتیجہ نام ہے انسانی ارادے کے خارجی نظور کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی ارادے کا ایک نتیجہ، واقعی نتیجہ، ہمیشہ ظاہر ہو جاتا ہے پھر انسانی ارادے کا دوسرا نتیجہ۔ اخلاقی نتیجہ۔ بھی ضرور ظاہر ہونا چاہیے۔ آخرت انسانی عمل کے اسی دوسرے پہلو کا مکمل انجام ظاہر ہونے کی جگہ ہے۔ جس طرح آدمی کے عمل کا ایک پہلو کچھ واقعات کو نظور میں لاتا ہے۔ اسی طرح اس کے عمل کا دوسرا پہلو کچھ دوسرے واقعات کو پیدا کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلی قسم کے واقعات کو ہم اسی دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھیتے ہیں اور دوسری قسم کے واقعات کو ہم مرنے کے بعد اگلی دنیا میں دیکھیں گے۔

ہر آدمی جو دنیا میں زندگی گزار رہا ہے وہ اپنے عمل سے اپنے لیے کوئی نہ کوئی نتیجہ پیدا کرنے میں صروف ہے۔ وہ خواہ بیکار بیٹھا ہو یا کسی کام میں مشغول ہو، اس کی ہر حالت اس کے موافق یا مخالف ایک رد عمل پیدا کرتی ہے۔ اس کے عادات و اخلاق سے لوگ اس کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں۔ وہ اپنی قوتون کو جس طرح استعمال کرتا ہے اسی کے بحاظ سے اس

کے کام بنتے یا بگڑتے ہیں، وہ اپنی کوششوں کو جس سمت میں لگتا ہے اس سمت کی چیزوں پر اس کا حق قائم ہوتا ہے۔

غرض ہر شخص اپنے گردوپیش اپنی ایک دنیا کی تخلیق کر رہا ہے جو عین اس کے عمل کے مطابق ہے۔ یہ آدمی کے عمل کا ایک پہلو ہے جو موجودہ دنیا سے متعلق ہے۔ اسی طرح اس کے کام کی دوسری حیثیت۔ صحیح یا غلط ہونے کی حیثیت۔ بھی اپنا ایک انجام پیدا کرتی ہے جو دوسری دنیا میں ذخیرہ ہو رہا ہے۔ ہمارے عمل کا اخلاقی پہلو مستقل طور پر اپنے انجام کی تخلیق کر رہا ہے اور اسی کا نام مذہب کی اصطلاح میں جنت اور دوزخ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ہر آن اپنے یہ جنت یا دوزخ کی تعمیر کر رہا ہے۔ چونکہ اس دنیا میں آدمی کو امتحان کی غرض سے مٹھرا یا گیلہ ہے، اس لیے یہ جنت دوزخ اس کی نگاہوں سے اوچھل رکھی گئی ہے۔ جب امتحان کی مدت ختم ہو گی اور قیامت آئے گی تو ہر شخص اپنی تعمیر کی ہوئی دنیا میں پہنچا دیا جائے گا۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے عمل کا کوئی اخلاقی انجام ہے تو وہ ہم کو نظر کیوں نہیں آتا۔ مثلاً مکان بنانا ایک عمل ہے جس کا ایک انجام یہ ہے کہ مکان بن کر کھڑا ہو جائے۔ یہ انجام ظاہر ہوتا ہے اور اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مگر اس عمل کا یہ پہلو کہ وہ جائز طریقے پر بنایا گیا ہے یا ناجائز طریقے پر، یہ بھی اگر کوئی انجام پیدا کرتا ہے تو وہ کہاں ہے۔ کیا ایسا بھی کوئی انجام ہو سکتا ہے جس کو دیکھا اور چھوانہ جاسکتا ہو۔

اس کا جواب خود عمل کی ان دونوں حیثیتوں میں موجود ہے۔ کسی عمل کی جو واقعاتی حیثیت ہے اس کو ہر شخص دیکھتا ہے حتیٰ کہ کھیرے کی بے جان آنکھ بھی اس کو صاف طور پر دیکھ سکتی ہے۔ مگر کسی عمل کی اخلاقی حیثیت نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ وہ صرف محسوس ہوتی ہے دیکھی نہیں

جائی۔ علی کی دونوں حیثیتوں کا یہ فرق خود اشارہ کر رہا ہے کہ دونوں قسم کا انجام کس طرح ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ اس بات کا صریح اشارہ ہے کہ علی کی پہلی حیثیت کا انجام اسی دنیا میں نظر آنا چاہیے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور علی کی دوسری حیثیت کا انجام اُس دنیا میں نظر آئے گا جو ابھی ہماری آنکھوں سے اوچھل ہے۔ گویا جو کچھ ہے، یہی دراصل ہونا بھی چاہیے تھا۔ مگر یہ صرف عقلی امکان ہی کی بات نہیں ہے۔ کائنات کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ بالفعل یہاں دونوں قسم کے انجام پائے جاتے ہیں۔ ایسے بھی جنہیں ہم واقع ہونے کے بعد فوراً دیکھ لیں۔ اور ایسے بھی جو اگرچہ ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتے مگر وہ ایک حقیقت کے طور پر موجود ہوتے ہیں۔ کائنات میں ایسے غیر مرنی نتائج کا موجود ہونا صریح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ اسی قسم کے دوسرے غیر مرنی نتائج بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ کائنات کی تخلیق اپنے اندر ایسے نتائج کے ہونے کا انترار کرتی ہے۔

مثال کے طور پر آواز کویجھے۔ آپ جانتے ہیں کہ آوازنام ہے ایسی لہروں کا جن کو آنکھ کے ذریعہ دیکھا نہیں جاسکتا۔ جب ہم بولنے کے لیے زبان کو حرکت دیتے ہیں تو اس کی حرکت سے ہوا میں کچھ لہرسیں پیدا ہوتی ہیں۔ انہیں لہروں کو ہم آواز کہتے ہیں۔ آواز ایک طرح کا غیر مرنی نقش ہے جو ہماری زبان کے ہلنے سے ہوا میں پیدا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص بولتا ہے تو اس کی آواز لہروں کی شکل میں نقش ہو جاتی ہے اور مستقل طور پر باتی رہتی ہے۔ حتیٰ کہ سائنس دالوں کا خیال ہے کہ اب سے ہزاروں برس پہلے کسی انسان نے جو آواز اپنے منہ سے نکالی تھی۔ جو گفتگو یا تقریر کی تھی سب کی سب ہوا کے اندر لہروں کی شکل میں موجود ہے۔ اگرچہ آج ہم ان آوازوں کو نہیں دیکھتے اور نہ اسے سنتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے پاس ان کو گرفت کرنے والے آلات ہوں تو کسی بھی وقت ان کو بعینہ اپنی

سابق شکل میں ڈھرایا جاسکتا ہے۔

اس مثال کے ذریعہ ہم دوسری دنیا کے مسئلے کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ جس طرح ہمارے چاروں طرف ہوا کا ایک غلاف ہے۔ اور ہماری ہر آواز منہ سے نکلتے ہی اس پر نقش ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ہم نہ ہو اکو دیکھتے ہیں اور نہ اپنی آواز کے نقش کو۔ بھیک اسی طرح وہ دوسری دنیا بھی ہم کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے اور ہماری نیتوں اور ارادوں کو سلسلہ ریکارڈ کرتی جا رہی ہے۔ اس کے پردے پر ہمارے اعمال کے نقش ثابت ہو رہے ہیں جو مرنے کے بعد ظاہر ہو جائیں گے۔

گراموفون میں چابی بھری ہوئی ہو اور ریکارڈ اس کے اوپر گھوم رہا ہو تو سوئی رکھتے ہی ریکارڈ کی خاموش تختی یا کیک اس طرح بول پڑتی ہے جیسے وہ اسی کی منتظر تختی کوئی اس کے اوپر سوئی رکھے اور وہ اپنے اندر کی آواز کو نکالنا شروع کر دے۔ اسی طرح ہمارے تمام اعمال کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے اور جب کائنات کا مالک حکم دے گا تو سارے ریکارڈ اس طرح ہمارے سامنے آجائے گا کہ اس کو دیکھ کر آدمی بے اختیار کہے گا:

مَا لِهُدَّ الْكِتَابِ لَا يُنَادِ رَصَنِيرَةٌ وَ لَا كَبِيْرَةٌ لَا أَحْصَاهَا

یہ کیسی کتاب ہے۔ میرا چھوٹا بڑا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اس نے محفوظ کر لیا ہو اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ہر ایک منٹ کے اندر دنیا کے ایک سو آدمی مر جاتے ہیں۔ یعنی رات اور دن کے اندر پسند رہ لاکھ۔ یہ واقعہ ہر آدمی کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ کیوں کہ ہر آدمی کے لیے یہ اندیشہ ہے کہ اگلے ۲۳ گھنٹے کے لیے جن پسند رہ لاکھ آدمیوں کی فہرست بن رہی ہے اس میں اس کا نام بھی شامل ہو۔ عقل مندوہ ہے جو اپنے کل کو جان لے۔ جو شخص صرف اپنے آج کو جانے اس سے زیادہ نادان اس

دنیا میں اور کوئی نہیں۔

آخری بات

اوپر جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اب آخر میں پھر ایک بار اس کو اپنے ذہن میں دُھرا لیجئے۔ آپ کی زندگی ایک نہایت طویل اور مسلسل زندگی ہے۔ موت اس زندگی کی آخری حد نہیں ہے بلکہ وہ اس کے دوسرے دور کی ابتداء ہے۔ موت ہماری زندگی کے دو مرحلوں کے درمیان حدا فاصل قائم کرتی ہے۔ اس کو مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ کسان ایک فصل بوتا ہے، اس پر کوشش کرتا ہے، اپنا سرمایہ اس میں لگاتا ہے۔ یہاں تک کہ فصل تیار ہو کر سوکھ جاتی ہے۔ اس وقت وہ اسے کاث لیتا ہے تاکہ اس سے غلہ حاصل کر کے اپنی سال بھر کی خوراک کا انتظام کرے۔ فصل کا کٹنا فصل کے ایک دور کا ختم ہونا اور اس کے دوسرے دور کا آغاز ہونا ہے۔ اس سے پہلے بونا اور فصل کو تیار کرنا ہتما۔ اس کے بعد اس کا پہل حاصل کرنا اور اس سے اپنی ضرورت پوری کرنا ہے۔ فصل کٹنے سے پہلے صرف کوشش اور خرچ ہتما اور فصل کٹنے کے بعد صرف اپنی محنت کا نتیجہ پانا اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔

ٹھیک یہی حال ہماری زندگی کا بھی ہے۔ ہم اس دنیا میں اپنی آخرت کی فصل تیار کر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص آخرت میں اپنا ایک کھیت رکھتا ہے جس میں وہ یا تو کاشت کر رہا ہے یا اس کو خالی چھوڑ رہے ہوئے ہے۔ اس نے یا تو خراب یعنی استعمال کے ہیں یا اچھے یعنی ڈالے ہیں۔ اس نے یعنی ڈال کر یا تو اسے چھوڑ دیا ہے یا وہ یعنی ڈالنے کے بعد مسلسل اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ اس نے یا تو کائنٹوں کی فصل بوئی ہے یا پہل اور پھول اگائے ہیں۔ وہ یا تو اپنی ساری قوت اس کھیت کو بہتر بنانے میں لگائے ہوئے ہے یا دوسرے غیر متعلق مشاغل اور

دل چپیوں میں بھی وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ اس فصل کی تیاری کی مدت اس وقت تک
ہے جب تک ہم کو موت نہیں آ جاتی۔ موت آخرت کی فصل کاٹنے کا دن ہے۔ جب اس دنیا
میں ہماری آنکھ بند ہو گی تو دوسری دنیا میں ہماری آنکھ کھلے گی۔ وہاں ہماری عمر بھر کی تیاری کی
ہوئی کھیتی ہمارے سامنے ہو گی۔

یاد رکھیے کاٹنے کے دن وہی کاٹتا ہے جس نے کاٹنے سے پہلے کھیتی کی ہو اور وہی چیز کاٹتا
ہے جو اس نے اپنے کھیت میں بوئی تھی۔ اسی طرح آخرت میں ہر شخص کو وہی فصل ملے گی جو اس نے
موت سے پہلے تیار کی ہے۔ ہر کسان جانتا ہے کہ اس کے گھر میں شیک اتنا ہی غذہ آئے گا جتنی اس
نے محنت کی ہے اور وہی چیز آئے گی جو اس نے بوئی تھی۔ اسی طرح آخرت میں بھی آدمی کو
اسی کے بقدر ملے گا جتنی اس نے جدوجہد کی ہے اور وہی کچھ ملے گا جس کے لیے اس نے کوشش
کی ہو۔ موت کو کوشش کی مدت ختم ہونے کا آخری اعلان ہے اور آخرت اپنی کوششوں کا انجام
پانے کی آخری جگہ۔ موت کے بعد نہ دوبارہ کوشش کرنے کا موقع ہے اور نہ آخرت کبھی ختم
ہونے والی ہے۔ کتنا سگین ہے یہ واقعہ کاش انسان موت سے پہلے اس حقیقت کو سمجھے
یکوں کہ موت کے بعد سبھنا کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ موت کے بعد ہوشیار ہونے کے معنی صرف یہ
ہیں کہ آدمی اس بات پر افسوس کرے کہ اس نے مااضی میں کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ایک ایسی
غلطی جس کی اب کوئی تلاش نہیں ہو سکتی۔

انسان اپنے انجام سے غافل ہے حالاں کہ زمانہ اس کو نہایت تیزی سے اس وقت کی
طرف لیے جا رہا ہے جب فصل کئے کا وقت آجائے گا۔ وہ دنیا کے حیر فائدوں کو حاصل کرنے میں
مصروف ہے اور سمجھتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں۔ حالاں کہ دراصل وہ اپنے قسمی اوقات کو صنائع
کر رہا ہے۔

ان ان کے سامنے ایک عظیم موقع ہے جس کو استعمال کر کے وہ اپنے لیے ایک مقابل قیاس
حد تک شاندار مستقبل بناسکتا ہے۔ مگر وہ کنکریوں سے کھیل رہا ہے۔ اس کا رب اس کو اپنی جنت کی
طرف بلارہا ہے جو لامتناہی عزت اور آرام کی جگہ ہے۔ مگر وہ چند دن کی جھونٹ لذتوں میں کھو یا ہوا ہے
وہ سمجھتا ہے کہ میں حاصل کر رہا ہوں حالاں کہ وہ صرف ضائع کر رہا ہے۔ دنیا میں مکان بنانے کرو
سمجھتا ہے کہ میں اپنی زندگی کی تعمیر کر رہا ہوں حالاں کہ وہ صرف ریت کی دیواریں اٹھا رہا ہے
جو اسی لیے بننی ہیں کہ بننے کے بعد منہدم ہو جائیں۔

(۱۹۴۰) انسان اپنے آپ کو پہچان۔ تو کیا کر رہا ہے اور تجھے کیا کرنا چاہیے!

عقیده خدا

عقلِ خدا

کائنات کا ایک خدا ہے جو اس کا خالق اور مالک ہے۔ اس خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل خود وہ کائنات ہے جو ہمارے سامنے پھیلی ہوئی ہے۔ کائنات اپنے پورے وجود کے ساتھ پکار رہی ہے کہ ایک عظیم خدا ہے جس نے اس کو بنایا اور جو اس کو اپنی بے پناہ طاقت سے چلا رہا ہے۔ ہم مجبور ہیں کہ ہم کائنات کو مانیں اور اس لئے ہم مجبور ہیں کہ ہم خدا کو مانیں۔ کیوں کہ کائنات کو مانا اس وقت تک بے معنی ہے جب تک اس کے خالق و مالک کو نہ مانا جائے۔ کائنات اتنی حیرت انگیز ہے کہ وہ کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی اور اس کا نظام اتنا عجیب ہے کہ وہ کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کو مانتے پر آدمی اسی طرح مجبور ہے جس طرح وہ کائنات کو ماننے پر مجبور ہے۔

آپ سائیکل کے پہیہ پر ایک لنکری رکھیں اور اس کے بعد پیڈل چلا کر پہیہ کو تیزی سے گھمائیں تو لنکری دور جا کر گرے گی۔ حالانکہ سائیکل کے پہیہ کی رفتار مشکل سے ۵ میل فی گھنٹہ ہے۔ ہماری یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑے پہیے کی مانند گھوم رہی ہے مگر ہمارے ساتھ کنکری والا واقعہ پیش نہیں آتا۔

زمین اپنے محور پر مسلسل ایک ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے۔ پر رفتار سواری کے عام ہوا جہاڑوں سے زیادہ ہے۔ ہم اس تین رفتار زمین پر چلتے پھرتے

ہیں۔ گھر اور شہر بناتے ہیں۔ مگر ہمارا وہ حال نہیں ہوتا جو گھوستہ ہوتے پہنچی پر کجھی ہوئی
کنکری کا ہوتا ہے۔ کیسا عجیب ہے یہ مجذہ۔ کہا جاتا ہے کہ زمین پر ہمارے قائم رہنے کی
وجہ یہ ہے کہ نیچے سے زمین بہت بڑی طاقت کے ساتھ کھینچ رہی ہے اور اور پر سے ہوا کا
بھاری دباؤ ہم کو زمین کی سطح پر روکے رہتا ہے۔ یہ دو طف عالم ہم کو زمین پر تھامے ہوئے
ہے اور یہی وجہ ہے کہ، ہم پہنچی کی کنکری کی طرح فضائیں اڑ نہیں جاتے۔ مگر باس صرف
اتنی ہی نہیں۔ یہ جواب درحقیقت یہ بتاتا ہے کہ ہمارے آس پاس ایک اور اس
سے بھی زیادہ بڑا مجذہ موجود ہے۔ زمین میں اتنے بڑے پیمانہ پر کھینچنے کی قوت ہونا اور
اس کے چاروں طرف ہوا کا پانچ سو میل موٹا غلاف مسلسل پیارہنا صرف معاملہ کی
جیرت ناکی کو بڑھاتا ہے، وہ کسی بھی درجہ میں اس کو کم نہیں کرتا۔

حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز مجذہ ہے۔ آدمی بٹی کے اندر ایک چھوٹا سا
دانہ ڈالتا ہے۔ اس کے بعد جیرت انگریز طور پر وہ دیکھتا ہے کہ مٹی کے اندر سے ایک ہری
اور سفید مولی نکلی چلی آ رہی ہے۔ وہ دوسرا دانہ ڈالتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر
سے بیٹھا گا جسرا نکلا چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح بے شمار دوسری چیزیں۔ کسی دانہ کو مٹی میں
ڈالنے سے امر و دنکل رہا ہے۔ کسی دانہ کو ڈالنے سے آم۔ کسی دانہ سے شیشم کا درخت نکلا
چلا آ رہا ہے اور کسی دانہ سے چنار کا پھر ان میں سے ہر ایک کی صورت الگ، ہر ایک کا مزہ
الگ، ہر ایک کے فائدے الگ، ہر ایک کی خاصیتیں الگ۔ ایک ہی بٹی ہے اور ناقابل
لحاظ چھوٹے چھوٹے نیچے میں اور ان سے اتنی مختلف چیزیں اتنی مختلف صفتیں کوئے ہوئے
نکل رہی ہے جن کی گنتی نہیں کی جاسکتی۔

جیرت ناک مجذوں کی ایک پوری کائنات ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی دکھائی

دیتی ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں سارے انسان مل کر ایک ذرہ کی بھی تخلیق نہیں کر سکتے وہاں
ہر لمحہ بے شمار طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوتی چلی جبار ہی میں حقیقت یہ ہے کہ یہ سب
انتہے بڑے مجذبے ہیں کہ ان کے کمالات کو انسانی زبان میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ ان کو
بتانے کے لئے ہماری لغت کے تمام الفاظ بھی ناکافی ہیں۔ ہمارے الفاظ ان مجذوبوں کے
اتھاہ کمالات کو صرف محدود کرتے ہیں۔ وہ کسی درجہ میں بھی ان کا اظہار نہیں کرتے کیا
یہ مجذہ ایک خدا کے بغیر خود بخود وجود میں آسکتا ہے۔

دنیا کی ہر چیز ایم سے ہی ہے۔ ہر چیز اپنے آخری تحریک میں ایٹھوں کا مجموعہ ہے۔
مگر کبسا عجیب مجذہ ہے کہ کہیں ایٹھوں کی ایک مقدار جمع ہوتی ہے تو سورج جیسا روشن
کرد بن جاتا ہے۔ دوسری جگہ بھی ایم جمع ہوتے ہیں تو وہ بہت ہوئے پانی کی صورت
میں رواں ہو جاتے ہیں۔ تیسرا جگہ ایٹھوں کا یہی مجموعہ لطیف ہو اول کی صورت اختیار
کر لیتا ہے کسی اور جگہ یہی ایم زرخیز میں کی صورت میں ڈھل جاتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں
ان گنت چیزیں ہیں۔ سب کی ترکیب ایم سے ہوئی ہے۔ مگر سب کی نوعیت اور خاصیت جدا
 جدا ہے۔

اس قسم کی ایک مجذاتی کائنات اپنی بے شمار سرگرمیوں کے ساتھ انسان کی خدمت میں
لگی ہوئی ہے۔ انسان کو اپنی زندگی کے لئے جو کچھ درکار ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر دنیا میں
جمع کر دیا گیا ہے اور ہر روز جمع کیا جا رہا ہے۔ دنیا کو اپنے لئے قابل استعمال بنانے کی خاطر
انسان کو خود جو کچھ کرنا ہے وہ بہت تحفڑا ہے۔ کائناتی انتظام کے تحت بے حساب مقدار
میں قیمتی رزق پیدا کیا جاتا ہے۔ ہم اس میں صرف اتنا کرتے ہیں کہ اپنا ہاتھ اور منہ چلا کر
اس کو اپنے پیٹ میں ڈال لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ارادہ کے بغیر خود کا رفتار

نظام کے تحت غذا ہمارے اندر تخلیل ہوتی ہے اور گوشت اور نون اور ہڈی اور ناخن اور بال اور دوسرا بہت سی چیزوں کی صورت اختیار کر کے ہمارے جسم کا جزء بن جاتی ہے۔ زمین و آسمان کی بے شمار گردشوں کے بعد وہ حیرت انگیز چیز پیدا ہوتی ہے جس کو تیل کہتے ہیں۔ انسان صرف یہ کرتا ہے کہ اس کو نکال کر اپنی مشینوں میں بھر لیتا ہے۔ اور پھر یہ سیال ایندھن انسانی تہذیب کے پورے نظام کو حیرت انگیز طور پر رواں دواں کر دیتا ہے۔ اسی طرح کائنات کے نظام کے تحت وہ ساری چیزوں بے شمار تعداد اور مقدار میں پیدا کی گئی ہیں جن پر انسان صرف معمولی عمل کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کثیراً، مکان، فریض، آلات، مشینوں، سواریوں اور بے شمار تدنی ساز وسایں کی صورت میں ڈھن جاتی ہیں۔ کیا یہ واقعات اس بات کے ثبوت کے لئے کافی نہیں کہ اس کا ایک بنا نہ والا اور چلاتے والا ہے۔

اب ایک اور پبلو سے دیکھئے۔ قدرت اپنے طویل اور ناقابل بیان عمل کے ذریعہ ہر قسم کی چیزیں تیار کر کے ہم کو دے رہی ہے۔ انسان ان کو اپنے حق میں کار آمد بنانے کے لئے بے حد تھوڑا حصہ ادا کرتا ہے۔ وہ لوہے کو مشین کی صورت میں ڈھالتا ہے۔ اور تیل کو صاف کر کے اس کو اپنی گاڑی کی ٹسلکی میں بھرتا ہے۔ مگر اس قسم کے معمولی عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ خشکی اور تری فساد سے بھر گئے ہیں۔ قدرت نے ہم کو ایک انتہائی حسین اور خالص دنیادی سمجھی۔ مگر ہمارے عمل نے ہم کو دھواں، سور، غلاظت، توڑ پھوڑ، لڑائی جھگڑا اور طرح طرح کے ناقابل حل مسائل سے گھیر لیا ہے۔ ہم اپنے کارہناؤں یا تدنی سرگرمیوں کی صورت میں جو تھوڑا سا عمل کرتے ہیں وہی عمل کائنات میں بے حساب گناہ زیادہ بڑے پیمانے پر رات دن ہو رہا ہے۔ مگر یہاں

کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔

زمین مسئلہ دو قسم کی دوڑیں لگی ہوتی ہے۔ ایک اپنے محور پر اور دوسرا سیورج کے گرد اپنے مدار پر، مگر وہ کوئی شور برپا نہیں کرتی۔ درخت ایک عظیم الشان کا رخانہ کی صورت میں کام کرتے ہیں مگر وہ دھواں نہیں بکھرتے۔ سمندروں میں بے شمار جانور ہر دن مرتے ہیں مگر وہ پانی کو خسرا ب نہیں کرتے۔ کائنات کا نظم کھرب ہا کھرب سال سے چل رہا ہے مگر اس کا منصوبہ اتنا کام ہے کہ اس کو کبھی اپنے منصوبہ پر نظر ثانی کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بے شمار ستارے اور سیارے خلا میں ہر وقت دوڑ رہے ہیں۔ مگر ان کی رفتار میں کبھی فرق نہیں آتا، وہ کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ یہ تمام مبخرودن سے بڑا مجذہ اور تمام کرشنوں سے بڑا کرشمہ ہے جو ہر لمحہ ہماری دنیا میں پیش کیا جاتا ہے۔ کیا اس کے بعد کوئی اور ثبوت چاہے کہ آدمی اس کائنات کے پیچھے ایک عظیم خدائی طاقت کو سیم کرے۔

پھر زندگی کو دیکھئے۔ فطرت کا کیسا انوکھا واقعہ ہے کہ چند مادی چیزوں نے خود بخود ایک جسم میں یک جا ہوتی ہیں اور پھر ایک ایسی شخصیت وجود میں آ جاتی ہے جو مچل بن کر پانی میں تیرتی ہے۔ جو چڑیا بن کر ہوا میں اڑتی ہے۔ طرح طرح کے جانوروں کی صورت میں زمین پر چلتی پھرتی ہے، انھیں میں وہ جاندار بھی ہے جس کو انسان کہا جاتا ہے۔ پر اسرار اسباب کے تحت ایک موزوں جسم بتا ہے۔ اور اس کے اندر ٹدیاں ایک انتہائی با معنی ڈھانپنگی کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ اس کے اوپر کھال کی تہیں اور ہاتھی جاتی ہیں، بال اور ناخن پیدا کئے جاتے ہیں۔ پھر سارے جسم میں نون کی نہریں جاری کی جاتی ہیں۔ اس طرح ایک خود کار عمل کے

ذریعہ ایک عجیب و غریب انسان بتا ہے، جو چلتا ہے، جو پکڑتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو سو نگھتا ہے، جو چکھتا ہے، جو سوچتا ہے، جو یاد رکھتا ہے، جو معلومات بخ کر کے ان کو مرتب کرتا ہے، جو لکھتا اور بولتا ہے۔

مردہ مادہ سے اس قسم کے ایک چیرت ناک وجود کا بن جانا ایک ایسا اونکا واقعہ ہے کہ مبغزہ کا لفظ بھی اس کے اعماز کو بتانے کے لئے کافی نہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے مٹی کو بولتے ہوئے سنائے اور پتھر کو چلتے ہوئے دیکھا ہے تو لوگ حیران ہو کر رہ جائیں گے۔ مگر یہ انسان جو چلتا پتھرتا ہے جو بولتا اور دیکھتا ہے آخر مٹی پتھر ہی تو ہے۔ اس کے اجزاء وہی ہیں جو ”مٹی اور پتھر“ کے ہوتے ہیں۔ مٹی اور پتھر کے بولنے اور دیکھنے کی خبر کو ہم جس طرح عجیب سمجھیں گے اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ تجھب ہم کو اس مخلوق پر ہونا چاہئے جس کو انسان کہا جاتا ہے۔ بے جان مادہ میں اس قسم کی زندگی اور شعور پیدا ہو جانا کیا اس بات کا ثبوت نہیں کہیا ہاں ایک برتر ہستی ہے جس نے اپنی خصوصی قدرت سے یہ عجیب و غریب مبغزہ رونا کیا ہے۔ انسان اگر خود اپنے اور غور کرے تو ہے آسانی وہ خدا کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی صورت میں ایک ”میں“ زمین پر موجود ہے۔ اس کی اپنی ایک مستقل ہستی ہے۔ وہ دوسری چیزوں سے الگ اپنا ایک وجود رکھتا ہے۔ یہ ”میں“ بلا اشتیاہ یقین رکھتا ہے کہ وہ ہے۔ وہ سوچتا ہے اور رائے فتاوم کرتا ہے۔ وہ ارادہ کرتا ہے اور اس کو بالفعل نافذ کرتا ہے۔ وہ اپنے فیصلہ کے تحت کہیں ایک رویہ اور کہیں دوسرا رویہ اختیار کرتا ہے۔ یہی شخصیت اور قوت جس کا ایک آدمی اپنی ”میں“ کی سطح پر ہر وقت تجربہ کر رہا ہے۔ یہی ”میں“ اگر خدا کی صورت میں

زیادہ بڑے پیمانہ پر موجود ہو تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کو مانا ایسا ہی ہے جیسے اپنے آپ کو مانا۔ اسی لئے قرآن میں کہا گیا ہے کہ آدمی اپنے واسطے آپ دلیں ہے چاہے وہ کتنی ہی معدرت کرے۔ (قیام)

لوگ خدا پر اور خدا کے پیغام پر یقین کرنے کے لئے مجرا تی دلیں مانگتے ہیں۔ آخر لوگوں کو اس کے سوا اور کون سا مجرا درکار ہے جو ناقابل قیاس حد تک بڑے پیمانے پر ساری کائنات میں جاری ہے۔ اگر اتنا بڑا مجرا آدمی کو جھکانے کے لئے کافی نہ ہو تو دوسرا کوئی مجرا دیکھ کر وہ کیسے ماننے کے لئے تیار ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کو ماننے اور اس کے آگے اپنے آپ کو ڈالنے کے لئے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہر وقت آدمی کے سامنے موجود ہے۔ اس کے باوجود آدمی اگر خدا کو اور اس کے جلال و نیکی کو نہ مانے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے نہ کسی اور کا۔

جو شخص خدا کو پالے اس نے سب کچھ پایا۔ خدا کو پانے کے بعد کوئی چیز پانے کے لئے باقی نہیں رہتی۔ اس لئے جب کوئی شخص خدا کو پاتا ہے تو اس کی ساری توجہ خدا کی طرف لگ جاتی ہے۔ اس کے لئے خدا ایسا انتہا خزانہ بن جاتا ہے جہاں وہ سب کچھ موجود ہو جو آدمی کو اپنی دنیا و آخرت کے لئے درکار ہے۔

ایک شخص "سیب" کھائے۔ مگر سیب کے کھانے سے اس کو نکوئی مزہ ملے اور نہ وہ اس کے جسم میں داخل ہو کر اس کو طاقت دے تو کہا جائے گا کہ اس نے سیب نہیں کھایا، اس نے سیب کی کشکل کی کوئی چیز چبالی ہے۔ ابیا ہی کچھ معاملہ خدا کا بھی ہے۔ خدا کو پانا وہ ہی پانا ہے جو آدمی کے لئے مزہ بن جائے۔ جب "خدا" کو پا کر بھی آدمی مزہ سے خالی رہے تو ہنہا چاہئے کہ اس نے خدا کو نہیں پایا۔ اس نے کوئی اور

چیز پائی ہے اور غلطی سے اس کو خدا بھجو رہا ہے۔ وہ مٹی کا سبب چبارما ہے اور سمجھتا ہے کہ میں حقیقی سبب کھاربا ہوں۔

دنیا اپنی ابتدائی شکل میں صرف ایک قسم کا مادہ ہے۔ ساری دنیا ایمیون کا مجموعہ ہے۔ بالفاظ دیگر ساری دنیا بے روح مادہ ہے۔ اس بے روح مادہ کو خدا بے شمار صورتوں میں جبلوہ گر کر رہا ہے۔ اس بے روح مادہ سے خدا کہیں روشنی پیدا کر رہا ہے اور کہیں حرارت۔ کہیں وہ اس بے روح مادہ کو ہر پالی میں تبدیل کر رہا ہے اور کہیں پانی کی روانی میں۔ کہیں وہ اس بے روح مادہ کو رنگ کی صورت میں ظاہر کر رہا ہے اور کہیں مزہ اور خوشبو کی صورت میں۔ کہیں اس بے روح مادہ سے حرکت کے کرشمے ظاہر ہو رہے ہیں اور کہیں کرشمے کر شے۔ ایسے عجیب و غریب قدرت والے خدا کو پانا ایک خشک عقیدہ کو پانا نہیں ہو سکتا۔ ایسے خدا کو پانا تو یہ ہے کہ آدمی کی روح ایک احتوا روشنی سے جگ گا اسٹھے۔ وہ اس کے قلب کے لئے لطف ولذت کا سمند بن جائے۔

آدمی ایک عمدہ سچل کھاتا ہے تو وہ باعث باعث ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ایک لطیف نغمہ سنتا ہے تو وہ ہمہ تن دجد میں آ جاتا ہے۔ کسی کے یہاں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانا نہیں رہتا۔ پھر خدا جو ساری خوبیوں کا سرخپمہ ہے، اس کا پانا کیا کسی کو بے قرار نہیں کرے گا۔ وہ محض ایک بے کیف داقعہ بن کر رہ جائے گا۔


خدا کو پانا یہ ہے کہ وہ ایک خوشبو ہو جس سے آدمی کا شامہ معطر ہو جائے۔ وہ ایک مزہ ہو جس سے اس کا ذائقہ لطف اندوڑ ہو۔ وہ ایک

لطفت، ہو جو اس کے لامسہ کو کیف سے بھر دے۔ وہ ایک حن ہو جو اس کی بصارت کو ایک حیرت ناک نظارہ میں محو کر دے۔ وہ ایک ترم ہو جو اس کے سامعہ کو ایسی لذت دے جس سے وہ کبھی سیر نہ ہو۔ جس خدا نے روشنی پیدا کی، کیسے ممکن ہے کہ اس کے اندر روشنی نہ ہو۔ جس خدا نے مزہ پیدا کیا کیسے ممکن ہے کہ اس میں مزہ نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا تمام روشنیوں سے زیادہ روشن ہے۔ وہ تمام مزدوں سے زیادہ مزے والا ہے۔ کسی کو خدا کی قربت ملنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص رنگت اور خوبصورت کے ابدی چمنٹان میں جا بلے، جیسے وہ ایک پیسکر نور کے پڑوں میں پائیج جائے۔

خدا ساری حکمتوں کا خازن ہے، اس لئے خدا کو پانا آدمی کو انتہائی باشمور بنادیتا ہے۔ خدا سارے زمین و آسمان کا نور ہے، اس لئے خدا کو پانا آدمی کی پوری شخصیت کو ربانی نور سے جگگا دیتا ہے۔ خدا تمام طاقتلوں کا سرخیز ہے، اس لئے خدا کو پانا آدمی کو اتنا طاقت ور بنا دیتا ہے کہ کوئی سیلاں اس کو غرق نہ کر سکے اور کوئی طوفان اس کے درخت کو اکھاڑنے والا ثابت نہ ہو۔



رسالت



رسالت

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غیر مسلم آئے اور آپ سے آپ کے پیغمبر، ہونے کا ثبوت ماننگا۔ انہوں نے کہا کہ خدا کے پیغمبر حضرت مولیٰ عاصا اور یہ بیضا دلے کر آئے جو لوگوں کے لئے ان کی پیغمبری کا ثبوت تھا۔ اسی طرح خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ اندھوں کو بینا کرتے تھے اور کوڑھیوں کو اچھا کرتے تھے، یہ ان کا بخوبی تھا جو ان کے پیغمبر خدا ہونے کو ثابت کرتا تھا۔ اسی طرح دوسرے پیغمبر بھی کوئی نہ کوئی مجزہ لائے اور اس کو اپنی پیغمبری کے ثبوت کے لئے پیش کیا۔ آپ بتائیں کہ آپ اپنی پیغمبری کے ثبوت کے لئے کیا مجزہ لائے ہیں۔

آپ نے خاموشی کے ساتھ ان کے سوال کو سننا اور اس کے بعد سورہ آل عمران کے آخر کی یہ آیتیں پڑھیں : زین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں جو اٹھتے ، بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی بناؤٹ میں غور کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ اے، ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا۔ تو پاک ہے اس سے کہ تو عبیث کام کرے۔ پس اے ہمارے رب، ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکار نے دالے کو سننا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو۔ ہم نے

اس کی دعوت قبول کی۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرم اور ہم سے درگذر فرم۔ ہماری براٹیوں کو دوکر دے اور ہمارا حاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر (آل عمران)

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آئین پڑھ کر سنا نا دوسرا لفظوں میں یہ کہنا تھا کہ میری نبوت کا ثبوت وہ پوری کائنات ہے جو تمہارے چاروں طرف پھیل ہوئی ہے۔ زمین و آسمان کا پورا نظام اپنی خاموش زبان میں رسالت اور پیغام رسالت کی تصدیق کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کسی اور بجزہ کی کیا ضرورت۔

پیغمبر اسلام کی نبوت دائمی نبوت تھی۔ اس لئے آپ کے لئے وقت بجزہ کا رآمد نہ تھا۔ آپ کے لئے وہ بجزہ مفید تھا جو آپ کی نبوت کی طرح مستقل ہوا اور آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی باقی رہے۔ تاکہ ہر دور کا انسان اس کو دیکھ سکے اسی لئے آپ نے خدا کی دنیا کو اپنے حق میں ابدی بجزہ کی حیثیت سے پہنچ کیا۔ قرآن میں عالمی نظام کے ان پبلوؤں کی نشان دہی کی گئی جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ انسان کی اصلاح کے لئے خدا کی رہنمائی کا انتظام ہونا چاہئے۔

کائنات اپنے پورے وجود کے ساتھ ایک سوال کا جواب۔ ہمارے سامنے ایک انتہائی عظیم اور مکمل دنیا ہے۔ وہ نہ صرف موجود ہے بلکہ ایک حد درجہ محکم نظام کے ساتھ مسلسل مختک ہے۔ اس کے اندر نہ کوئی نقص ہے اور نہ کوئی خلا۔ وہ ناقابل تیاس توزع اور پھیلا دو کے باوجود کمال درجہ ہم آہنگ ہے۔ اس کے اندر انتہائی باعثی سرگرمیاں جاری ہیں۔ وہ اپنے بے شمار اجزاء

کے ساتھ انتہائی محکم بنیاد دن پر چل رہی ہے۔ ایسی ایک کائنات کو دیکھ کر فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا خالق و مالک کون ہے۔ کون ہے جو اس کو عدم سے وجود میں لے آیا۔

کائنات یہ انتہائی اہم سوال ہمارے سامنے لا تی ہے مگر وہ اس کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ وہ ہم کو تو سد قزح کا مشاہدہ کرتی ہے مگر وہ ہم کو اپنے خالق کا چہرہ نہیں دکھاتی۔ کائنات میں حرکت ہے، زندگی ہے، روشنی ہے، تنفس ہے، مختلف قسم کی طاقتیں ہیں۔ حتیٰ کہ طرح طرح کے جانداروں کی صورت میں بولنے والی زبانیں بھی ہیں۔ مگر اس اہم ترین سوال کے بارے میں سب غاموش ہیں۔ کوئی بھی انسان کو اس سوال کا جواب نہیں دینا۔ کسی پہاڑ کی چوٹی پر ایس کوئی بورڈ لگا ہوا نہیں ہے جہاں اس سوال کا جواب لکھا ہو انظر آتا ہو۔ یہ صورت حال پکار رہی ہے کہ کوئی بتانے والا ہو جوانان کو اس سوال کے بارے میں بتائے۔

اسی کے ساتھ دوسرا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ اس کائنات کا انجام کیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز حرکت ہے۔ زین مسلسل سفر کر رہی ہے۔ شمسی نظام زین اور دوسرے سیاروں کوئی ہوئے ایک طرف کو چلا جا رہا ہے۔ پھر کہکشاں ہمارے شمسی نظام اور دوسرے ستاروں کوئی ہوئے ہر ٹھہر دوں دوں ہے۔ کائنات کا تقابلہ اپنے تمام اجزاء کے ساتھ کسی منزل کی طرف چلا جا رہا ہے۔ مگر کوئی بھی اپنی منزل کے بارے میں اعلان نہیں کرتا۔ کائنات کچھ نہیں بتاتی کہ وہ کہاں سے چلی ہے اور کہاں چلی جا رہی ہے اور بالآخر وہ کہاں پہنچنے والی ہے۔

یہ شدید ترین اہمیت رکھنے والا سوال ہے۔ کیوں کہ کائنات کے تیز رفتار

قابلہ میں انسان بھی شرکیں ہے اور وہ مسئلہ ایک ناصالوم سفر کی منزیں ملے کر رہا ہے۔ اگر وہ اپنے سفر اور اپنی منزل کی باہت نہ جانے تو سارا سفر اندر ہیرے کا سفر بن جائے گا۔ اس صورت حال کا تقاضا ہے کہ یہاں کوئی انتظام ہو جو اس کو اس معاملہ کی حقیقت سے باخبر کرے۔

پھر اسی سے متعلق یہ سوال ہے کہ انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ آدمی کے سامنے بے شمار معاملات آتے ہیں اور ان کے درمیان ایک سے زیادہ طریقے اختیار کرنا اس کے لئے ممکن رہتا ہے، پھر انسان کون سا معیار اپنے سامنے رکھے۔ وہ کونا طریقہ اختیار کرے اور کون سا طریقہ اختیار نہ کرے۔ انسان کے لئے راہ عمل کیا ہو۔ پانی کا راستہ زمین کے نشیب و فراز سے بن جاتا ہے۔ درخت سے لے کر ستاروں تک ہر چیز کا ایک نظام مقرر ہے جس پر وہ پابندی کے ساتھ پلے جا رہے ہیں۔ کائنات کی دوسری چیزوں کے لئے یہ سوال نہیں کہ وہ کس کو لے اور کس کو چھوڑ دے۔ جب کہ انسان اپنے اختیار کی وجہ سے ہر وقت اس سوال سے دوچار رہتا ہے۔ پوری کائنات میں انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جس کے سامنے کوئی معلوم اور مقرر راہ عمل نہیں۔

سورج حدود جہاں پابند نظام کے تحت ہر روز ہمارے لئے روشنی بھیجا ہے۔ مگر وہ ہماری اپنی زندگی کے سوال پر کوئی روشنی نہیں ڈالتا۔ ہوا ایک مکمل نظام کے تحت چلتی ہے اور بھولوں کی خوشبو ہمارے مٹام تک پہنچاتی ہے مگر وہ ہمارے اصل مسئلہ کے بارے میں ہم کو کوئی خبر نہیں دیتی۔ پانی ایک متعین قانون میں بندھا ہوا ہے، وہ ہمارے لئے ٹھنڈک اور تراوٹ لے کر آتا ہے مگر ہماری تلاش کے

بامیں وہ ہماری کوئی مدد نہیں کرتا۔ زمین اپنی محوری گردش کے ذریعہ ہر روز ہمارے لئے دن لاتی ہے اور رات کا پر دہ ہمارے اوپر سے بھاتی ہے مگر وہ زندگی کے بھید کا پر دہ نہیں کھولتی۔ درخت زمین کو پھاڑ کر نکلتے ہیں اور ایک منظم کارخانہ کی طرح عمل کرتے ہوئے ہمارے لئے رزق اور سایہ فراہم کرتے ہیں۔ مگر وہ ہماری ذہنی غذا کے لئے بیس کوئی چیز فراہم نہیں کرتے۔ چوتھیاں جیسا تھا میں، ان کو اپنی زندگی کا نظام پوری طرح معلوم ہے مگر وہ ہماری قابلِ فہم زبان میں ہم کو کوئی پیغام نہیں دیتیں۔ ستارے اور سیارے اپنے نظام میں ایک سکنڈ کا فرق کئے بغیر دوڑ رہے ہیں۔ مگر وہ نہیں بتاتے کہ وہ کون سی منزل ہے جس کی طرف انسان کو روں وال دواں ہونا چاہئے۔

کائنات کی ہر چیز ایک ہی مقرر راستہ پر چل رہی ہے، حقیر چیزوں سے لے کر عظیم بکشاںوں تک سب کے سب اپنے مقرر نظام کے اس طرح پابند ہیں جیسے ان کو اپنی راہ عمل پوری طرح معلوم ہو۔ یہاں صرف ایک انسان ہے جو اپنی راہ عمل سے بے خبر ہے۔ ایک باخبر کائنات میں وہ بالکل بے خبر حالت میں کھڑا ہوا تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ ہر چیز کو اپنی منزل کی طرف جاتا ہوا دیکھتا ہے مگر اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ خود کیا کرے اور کہ ہر جائے۔

کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا ایک نظام عمل مقرر ہے جس پر وہ حد درجہ پابندی کے ساتھ قائم ہیں۔ یہاں صرف ایک انسان کا استثناء ہے۔ انسان واحد مخلوق ہے جو کسی نظام میں بندھا ہوا نہیں ہے۔ وہ اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے اور جو چاہے نہ کرے۔ زمین اپنے مدار میں گھومتی ہے۔ وہ دوسرے سیاروں کے

مدار میں داخل نہیں ہوتی۔ مگر انسان کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ ایک متعین صورت حال جہاں دوسری چیزیں ہمیشہ ایک ہی رخ اختیار کرتی ہیں، انسان کے لئے ممکن ہوتا ہے کہ وہ کئی رخ اختیار کر سکے۔ وہ اپنے "مدار" سے نکل کر دوسرے کے "مدار" میں مداخلت کرنے لگے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے لئے راہ عمل پانے کا معاملہ اس سے مختلف ہے جو بقیہ کائنات کا ہے۔ بقیہ چیزیں اپنی راہ عمل خود اپنے ساتھ لاتی ہیں مگر انسان کو اپنی راہ عمل باہر سے حاصل کرنا ہے۔

مطالعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان اپنی راہ عمل خود دریافت نہیں کر سکتا۔ انسان عقل و فہم رکھتا ہے مگر اس کی عقل و فہم اصل مسئلہ کی نسبت سے اتنی محدود ہے کہ کسی طرح بھی یہ کن نہیں کہ وہ اپنی کوشش سے اس سوال کا جواب معلوم کر سکے۔ پچھلے ہزاروں سال کی تاریخ نے اس کو تجرباتی سطح پر ثابت کر دیا ہے۔

کائنات کے اندر اپنے سوال کا جواب نہ پا کر انسان نے خود تحقیق شروع کی۔ مگر نسلوں کی کوششیں بھی اس کو کسی ایسی بات تک نہ پہنچا سکیں جس پر وہ یقین کر سکے۔ اس نے تاروں اور سیاروں کی حرکت کے اصول معلوم کر لے، مگر انسان کے سفر اور اس کے آغاز و انجام کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ کر سکا۔ اس نے جمادات، نباتات اور حیوانات کا قانون دریافت کر لیا۔ مگر خود انسان کا قانون دریافت کرنے میں ناکام رہا۔ اس نے یہ جان لیا کہ مادہ فنا ہوتا ہے تو انرجی بن جاتا ہے اور انرجی ختم ہوتی ہے تو وہ مادہ کی صورت اختیار کر لیتی ہے مگر انسان مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کی بابت وہ کچھ نہ جان سکا۔ اس نے معلوم کر لیا کہ کائنات کی تمام چیزیں ایک ہی مکمل قانون میں بندھی ہوئی ہیں اور اس سے ادنیٰ انحراف کئے بغیر کھرب ہا کھرب سال تک جلتی رہتی ہیں۔ مگر انسان

کا قانون جیات کیا ہو، اس کے بارے میں وہ کچھ معلوم نہ کر سکا۔ اس نے کائنات کی وسعتوں کو اپنے آلات کی مدد سے دیکھ لیا اور انہتائی چھوٹے ائمم کے اندر ورنی نظام کا پتہ کر لیا۔ مگر انسان کی حقیقت کیا ہے اور وہ کس منصوبہ کے تحت وجود میں آیا ہے۔ اس کی بابت وہ کچھ نہ جان سکا۔

انسان کی سب سے بڑی ضرورت کے بارے میں انسان کی یہ مجبوری ثابت کرتی ہے کہ اس کو اس بارے میں ایک خصوصی رہنمای درکار ہے۔ اس سے پیغمبر کی ضرورت پوری طرح ثابت ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کو با معنی بنانے کے لئے پیغمبر کا لازمی طور پر محتاج ہے۔ اس کے بعد جب ہم ان تعلیمات پر غور کرتے ہیں جو پیغمبر نے پیش کی ہیں تو مزید یقین ہو جاتا ہے کہ پیغمبر فی الواقع انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے۔ پیغمبر کی بتائی ہوئی باتیں ان تمام سوالات کا تسلی بخش اور مکمل جواب ہیں جو انسان کو در پیش ہیں۔ یہ تعلیمات خود اس بات کا ثبوت ہیں کہ پیغمبر واقعی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے اس کو حقیقت کا علم دے کر انسانوں کی رہنمائی کے لئے بھیجا ہے۔ بقیہ چیزوں کا قانون عمل ان کے پیداگرنا والے نے اندر ورنی طور پر ان کے اندر رکھ دیا اور انسان کا قانون عمل پیغمبر کے ذریعہ اس کے پاس بھیجا۔

پیغمبر ہم کو بتاتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے اور وہ اپنی غیر معمولی قدرت کے ساتھ اس نظام کو چکلار رہا ہے۔ اس جواب سے زیادہ صحیح جواب کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ جواب ایسا ہی ہے جیسے ایک مشین بہت عمدہ چل رہی ہو۔ لوگ اس کی کارکردگی کو دیکھ کر حیران ہوتے ہوں۔ مگر اس کی ساخت اس پر لکھی ہوئی نہ ہو۔ اب ایک واقعہ کا ریہ ہے کہ یہ فلاں کا رخانہ کی بنی ہوئی ہے جو دنیا بھر میں انجینئرنگ کا

سب سے اچھا کارخانہ ہے۔ یہ بات معلوم ہوتے ہیں دیکھنے والوں کی اگھن ختم ہو جائے گی۔ کیوں کہ اب ان کو مشین کی اعلیٰ کارکردگی کی توجیہ مل گئی۔

اسی طرح ایک عظیم کائنات کا موجود ہونا اور پھر اس کا حد درجہ حکم طریقہ پر چلنا اس کے بارے میں یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ وہ کیوں کرہی اور کیسے چل رہی ہے۔ جب پیغمبر یہ کہتا ہے کہ ایک خدا ہے جس نے اس کو بنایا اور جو اس کو اپنی خدائی طاقتون سے چلا رہا ہے تو فوراً ہم کو اپنے سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ یہ جواب، عمارے لئے ذرا بھی بعید از قیاس نہیں۔ کیوں کہ خدا کو مانتا ایسا ہی ہے جیسے اپنے آپ کو مانتا۔ ہم اپنی ذات کی سطح پر ایک ایسے وجود کا تجربہ کر رہے ہیں جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو سوچتا ہے، جو چلتا ہے، جو پکڑتا ہے، جو منصوبہ بناتا ہے، جو واقعات کو ظہور میں لاتا ہے۔ ”انسان“ کی صورت میں جن فوتتوں کو ہم مسدود طور پر دیکھ رہے ہیں۔ وہی قوتیں زیادہ کامل طور پر خدا کی صورت میں موجود ہوں تو اس میں تجہب کی بات کیا ہے۔ یہ تو گویا اسی واقعہ کو زیادہ بڑے پیمانے پر مانتا ہے جس کا ہر وقت ہم چھوٹے پیمانے پر تجربہ کر رہے ہیں۔ ”میں“ ہوں یہی اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ ”خدا“ ہے۔ دوسری بات جو پیغمبر بتاتا ہے وہ یہ کہ کائنات بے انجام نہیں۔ اس کا ایک انجام ہے جو موت کے بعد سامنے آنے والا ہے۔ آدمی کو اتنا ہر اس دنیا میں جو آزادی حاصل ہے وہ صرف امتحان کے لئے ہے۔ یہ آزادی ایک خاص مدت تک ہے۔ اس مدت کے ختم ہونے کے بعد موجودہ نظام توڑ دیا جائے گا۔ اور نیازیادہ کامل اور ابدی نظام بنایا جائے گا۔ وہاں خدا اپنی طاقتون کے ساتھ ظاہر ہو جائے گا۔ جو اس وقت امتحان کی مصلحت کی بنا پر غیب کے پردہ میں چھپا ہوا ہے۔ آج کی دنیا میں ہر ایک کو فائدہ اٹھانے

کاموٹے ہے۔ مگر آنے والی دنیا میں خدا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا حق صرف ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے حالت غیب میں خدا کی وفاداری کی ہوگی۔ بقیہ تمام لوگ خدا کی نعمتوں سے دور پھینک دتے جائیں گے۔

پیغمبر کی یہ خبر بھی پوری طرح پچائی کے مطابق معلوم ہوتی ہے۔ ایک ایسا تھا جس نے دیکھنے اور سمجھنے والے انسان کو بنتا یا، کیسی عجیب بات ہو گئی کہ انسان یوں ہی پیدا ہو کر مرجائے اور اس کا خدا اس کے سامنے نلا ہر نہ ہو کہ وہ اس کو دیکھے اور جانے۔

پھر موجودہ کائنات اتنی باحکمت ہے کہ کسی طرح بھی یہ بات قابل تصور نہیں ہے کہ اس کا کوئی انجام نہ ہو، کوئی ایسا دن نہ آئے جہاں ظلم کی صورت میں اور انصاف انصاف کی صورت میں نمایاں ہو۔ یہاں دوبارہ پیغمبر کی خبر یعنی وہی ہے جس کا انسانی فطرت تقاضا کر رہی تھی، ایک ایسی دنیا جہاں عالم سے وجود کے مظاہرے ہوتے ہوں۔ جہاں رات کے بعد دن آتا ہو، جہاں ایک معمولی نیج سے بے شاربڑے بڑے درخت پیدا ہوتے ہوں۔ جہاں ”آج“ ہمیشہ ”کل“ میں تبدیل ہوتا ہو، ایسی دنیا کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کی ایک آخرت ہے حد درجه قابل فہم ہے۔ جو دن ہم ہر روز نکلتا دیکھتے ہیں، یہ اسی کے زیادہ بڑے پہیانے پر نکلنے کی خبر ہے۔ جو کل ہر روز ہمارے اور پر آتی ہے یہ اسی کے زیادہ بڑی صورت میں نلا ہر ہونے کی اطلاع ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر ہماری اپنی فطرت کی مانگ کو شورتک پہنچاتا ہے، جس بات کے اشارے آج بھی کائنات میں موجود ہیں اس کو وہ یقینی علم کا درجہ عطا کرتا ہے۔

پیغمبر نے انسان کے لئے جو راہ عمل بنائی ہے وہ بھی حد درجه تابل فہم ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ پیغمبر کا یہ دعویٰ بالکل صحیح ہے کہ وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ کیوں

کہ اتنی صحیح بات وہ ہی کہہ سکتا ہے جو خدا کی طرف سے بول رہا ہو۔ پغیر یہ بتاتا ہے کہ انسان کے لئے راہ عمل یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ عبادت کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ کے پسروں کو دینا۔ اسی سے ڈرنا اور اسی سے محبت کرنا۔ اللہ ہی کو اپنا سب کچھ بنالینا۔ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک ایسا وجود ہے جو اپنی توجہات کا ایک مرکز چاہتا ہے۔ اس کو کوئی ایسا نقطہ درکار ہے جس کے اوپر وہ اپنی سوچ اور اپنے جذبات کو مرکز کر سکے۔ یہ انسان کی ایسی ضرورت ہے جس سے وہ کسی حال میں خالی نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اس سے غالی ہو۔

کسی کا مرکزِ توجہ اس کے بیوی بچے ہیں۔ کسی کا مرکز اس کا قبیلہ اور برادری ہے۔ کسی کا مرکزِ توجہ قوم اور وطن ہے۔ کوئی دولت کو اور کوئی انتدار کو اپنا مرکزِ توجہ بنائے ہوئے ہے۔ مگر ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں جو حقیقتہ اس قابل ہو کہ انسان اس کو اپنا مرکزِ توجہ بنائے۔ یہ چیزیں آدمی کے فطری جذبہ کا انحراف ہیں نہ کہ آدمی کے فطری جذبہ کا استعمال۔ مرکزِ توجہ بننے کے قابل وہ ہو سکتا ہے جو انسان کو سہارا دے سکے۔ جوزنگی کے انعام کو بہتر بنانے میں انسان کی مدد کر سکتا ہو۔ مگر ان میں سے کسی چیز کو بھی یہ طاقت حاصل نہیں۔ یہ تمام چیزیں خود ہی دوسروں کی محتاج ہیں۔ پھر وہ کسی دوسرے کی کیامد کر سکتی ہیں۔

پھر مرکزِ توجہ بننے کے قابل وہ ہے جس کو یہی وقت سارے انسان مرکزِ توجہ بنائیں اور اس کے باوجود معاشرہ میں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو۔ مگر ان میں سے ہر چیز کا معامل اس کے بر عکس ہے۔ وہ تمام چیزیں جن کو آدمی عام طور پر مرکزِ توجہ بناتا ہے وہ محدود ہیں۔ ایک آدمی کا انھیں پانا ہمیشہ دوسرے آدمی کی محرومی کی قیمت پر ہوتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ سماج میں مستقل چھین جھپٹ جاری رہتی ہے۔ ایک شخص جب پاتا ہے تو وہ دوسرے شخص سے چھین رہا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے یہ صرف خدا ہی کی شان ہے کہ بیک وقت سارے انسان اس کو پانے کے لئے دوڑیں اور پھر بھی لوگوں میں کوئی ٹکڑا ف پیدا نہ ہو۔ کیوں کہ خدا مادی چیزوں سے بلند ہے، خدا ہر قسم کی محدودیت سے پاک ہے۔

انسانی سماج کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خواہ کتنا ہی اچھا قانون بنایا جائے، انسان اس سے بچنے کا راستہ تلاش کریتا ہے۔ کسی کے پاس طاقت ہے تو وہ طاقت کے بل پر دھاندلی کرتا ہے۔ کسی کے پاس دولت ہے تو وہ خوبصورت الفاظ کے ذریعہ انصاف کو خسری دلتا ہے۔ کسی کے پاس الفاظ ہیں تو وہ خوبصورت الفاظ کے ذریعہ اپنے ظلم کو انصاف ثابت کرتا ہے۔ غرض ہر ایک اپنے ناحق کو حق ظاہر کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی تدبیر پالیتا ہے۔ مگر جب خدا کو درمیان میں کھڑا کر دیا جائے تو ہر آدمی محسوس کر لیتا ہے کہ اس کی تدبیریں بے معنی ہیں۔ تمام تدبیریں اسی وقت تک تدبیریں ہیں جب تک معاملہ انسان اور انسان کے درمیان ہو۔ جب معاملہ کو انسان اور خدا کا معاملہ بنادیا جائے تو ہر آدمی مکمل طور پر سخیدہ اور محتاط ہو جاتا ہے۔ کیونکہ خدا سے نہ کوئی بات چھپائی جاسکتی اور نہ وہاں کسی قسم کا زور چل سکتا۔ حقیقت یہ کہ خدا پرستی ہی واحد بنا دے جس سے لوگوں میں قانون کے احترام کا جذبہ پیدا کیا جاسکتا ہے۔ اس کے سوا کوئی بنیاد نہیں جس سے یہ مقصد حاصل ہو سکے۔

دنیا میں صحیح نظام بنانے کے لئے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ

قریبانی ہے۔ کہیں کسی کی رائے کے مقابلہ میں اپنی رائے کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ کہیں اپنے

ایک کریٹ کو دوسرا کے حوالے کرنے پر راضی ہونا پڑتا ہے۔ کہیں اپنے گھروں والوں کے مفاد کے مقابلہ میں دوسروں کے مفاد کو ترجیح دینی پڑتی ہے۔ کہیں اپنی محنت سے کماتے ہوئے مال کو دوسروں کے حوالے کر دینا پڑتا ہے۔ کہیں ایک ایسے کام میں اپنی قوتیں کھپانے کا سوال ہوتا ہے جس میں بظاہر کچھ ملنے والا نہیں۔

جب تک افراد میں اس قسم کی قربانی کا مزاج نہ ہو خیقی معنوں میں کسی درست نظام کا فائدہ ہونا ممکن نہیں۔ اس کے بغیر ہر آدمی اپنی بات پر اصرار کرے گا اور نتیجہ پورا سماج چھیڑ کا سماج بن جائے گا۔ اگر یہی موجودہ دنیا سب کچھ ہو تو آدمی اس قسم کی فتنہ بانی کیوں کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جس سماج میں خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو مرکزِ توجہ بنا�ا جائے وہاں مستقل فساد برپا رہتا ہے۔ لوگ قربانی دینے پر تیار نہیں ہوتے اس لئے صالح ماحول بننے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ لگر پیغمبر زندگی کے جس مقصد کی نشان دہی کرتا ہے اس میں یہ مسئلہِ نہایت خوبی کے ساتھ حل ہو جاتا ہے۔ اب قربانی کرنے کے لئے بہت بڑا مرکز مل جاتا ہے۔ اب انسان جان لیتا ہے کہ اس کی ہر قربانی کی اللہ کے یہاں بہت بڑی قیمت ہے جو مرنے کے بعد اس کو ابدی زندگی میں لوٹائی جائے گی۔ یہ ذہن انسانی سماج میں ہر قسم کے ظلم کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ اور حق و انصاف کے لئے مضبوط ترین بنیاد فراہم کر دیتا ہے۔ اب ہر شخص اس قربانی کے لئے تیار ہو جاتا ہے جو ماحول کو صالح بنانے کے لئے ضروری ہے۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ وہی دین ہے جو خدا کے دوسرا پیغمبر لے کر آئے تھے۔ مگر دوسرا پیغمبر دین کا دین ان کے بعد محفوظ نہ رہ سکا ان کے بعد ان کے دین کے ماننے والے اتنے طاقت و رشابت نہ ہو سکے کہ ان کے

دین کو اس کی اصلی صورت میں محفوظ رکھ سکتے۔ پیغمبر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے آخری بنی کی حیثیت سے سمجھا اور ان کی خصوصی مدد کر کے ان کو تمام قوموں اور مذہبیوں کے اوپر غالب کر دیا۔ آپ کی یہ غیر معمولی فتح ایک طرف آپ کے پیغمبر خدا ہونے کی دلیل بن گئی۔ آپ کی کامیابی اتنی غیر معمولی تھی کہ دنیا میں کبھی کسی کو ایسی کامیابی حاصل نہ ہوتی۔ یہ واقعہ اس بات کا ایک محسوس ثبوت ہے کہ آپ خدا کی طرف سے تھے اور خدا نے اپنی خصوصی مدد سے آپ کو یہ علیہ اور کامیابی عطا فرماتی۔ کوئی عام آدمی کبھی اس قسم کی کامیابی پر فتنہ در نہیں ہو سکتا۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے تمام دشمنوں کو زیر کیا اور آپ کو عرب میں اور عرب کے باہر جو کام یابی حاصل ہوتی وہ ساری انسانی تاریخ میں انوکھی اور بے مثال ہے۔ مورخین نے کھلے طور پر یہ تسلیم کیا ہے کہ ایسی غیر معمولی کام یابی نہ آپ سے پہلے کسی شخص کو حاصل ہوتی اور نہ آپ کے بعد کوئی ایسا شخص ہے جو ایسی غیر معمولی کام یابی تک پہنچا ہو۔

پیغمبر اسلام جیسا کام یاب انسان ساری معلوم تاریخ میں صرف ایک ہی نظر آتا ہے۔ یہ آپ کی ایسی ناقابل انکار خصوصیت ہے کہ جو لوگ آپ پر ایمان نہیں رکھتے وہ بھی جب تاریخ کے بڑوں کی فہرست بنلتے ہیں تو وہ مجبور ہوتے ہیں کہ آپ کو اس فہرست میں سب سے اوپر رکھیں۔

آپ کی اس انوکھی اور استثنائی کام یابی کو عام طور پر لوگ بس ایک انسان کا کارنامہ سمجھتے ہیں۔ وہ اس کا حق اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ بڑھے ہوئے لفظوں میں آپ کی شخصی عظمت کا اعتراف کر لیں۔ مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ یہ کام یابی اگر عام

معنوں میں صرف ایک انسانی کام یا بھی تو اس میں یہ استثنائی خصوصیت کبھی ہے۔
کیا وجہ ہے کہ تاریخ اس کی کوئی دوسری مشاہدہ پیش نہیں کرتی۔ ساری طوریں تاریخ میں
ہم کوئی دوسرے انسان نہیں پاتے جس نے اتنی بڑی کام یا بھی حاصل کی ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ آپ کی کام یا بھی کا استثنائی پہلو ایک زبردست نشانی ہے۔
وہ اس واقعہ کے غیر انسانی ہونے کو بتاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ کام یا بھی آپ کو برآہ
راستِ خدا کی مرد سے حاصل ہوتی۔ اور اس لئے حاصل ہوتی کہ آپ خداوند ذوالجلال

کے پیغمبر اور اس کے نمائندہ تھے۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی استثنائی کامیابی آپ کے سچے پیغمبر خدا ہونے کا
ثبوت ہے نہ کہ سادہ معنوں میں مخفی آپ کے عظیم انسان ہونے کا ثبوت۔

دوسری طرف آپ کی اسی کامیابی کے ذریعہ آپ کے لائے ہوئے دین کی مستقل
حفاظت کا انتظام ہو گیا۔ آپ کی اس کامیابی کی وجہ سے آپ کے ماننے والوں کی حکومت
ایک بہت بڑے رقبہ پر قائم ہو گئی۔ یہ حکومت آپ کے دین کی دائمی محافظ بن گئی۔
چنانچہ آپ کی آمد کو چودہ سو سال ہو گئے اور آج تک آپ کے دین میں کوئی تبدیلی
نہ ہو سکی۔ وہ اب بھی اسی خالص صورت میں محفوظ ہے جس صورت میں آپ نے اس کو
دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ آپ قیامت
تک کے لئے تمام انسانوں کے اوپر خدا کے پیغمبر ہیں۔ نیا پیغمبر کرنے کی ضرورت ہیئت
اس لئے پڑتی ہے کہ خدا کا دین اپنی اصلی صورت میں محفوظ نہ رہا ہو۔ پچھلے زمانہ
میں بار بار ایسا ہوا کہ آسمانی کتاب کی حامل قویں اپنی کتاب کو ضائع کرتی رہیں۔ اس

لئے بار بار نبی آئے تاکہ خدا کی تعلیمات کو زندہ کر دیں اور ان کو دوبارہ ان کی صحیح صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیں۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی صورت میں جو کتاب پیش کی وہ مکمل طور پر اپنی ابتدائی صورت میں محفوظ ہے اور پریس کا دور آنے کے بعد آخری طور پر محفوظ ہو چکی ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ کہنا صحیح ہو گا کہ آپ آج بھی ایک زندہ نبی کی حیثیت سے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ کیوں کہ آپ کے اقوال، آپ کے حالات، آپ کی پیغمبرانہ جدوجہد، غرض آپ کے پورے عمل کا ریکارڈ اس طرح مکمل طور پر محفوظ ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم آپ کو اپنے درمیان محسوس کرنے لگتے ہیں۔ بحیثیت رسول آپ نے جو کچھ کیا وہ سب کا سب ہم شروع سے آخر تک آج بھی معتبر کتابوں میں دیکھ رہے ہیں۔ ایسی حالت میں اب نیا نبی آنے کی کیا ضرورت۔

آخرت

آخرت

آخرت میں آدمی کو جو بدلہ دیا جائے گا وہ دنیا میں اس کے عمل ہی کا اخروی پہلو ہوگا۔ اس نے عمل اور بدلہ دونوں ایک دوسرے کے انتہائی مطابق ہوں گے۔ ایک شخص سونا جمع کئے ہوتے ہے اور اللہ کا حصہ اللہ کے راستے میں نہیں دیتا تو وہ سونا گویا آگ کا انگارہ ہے۔ موت کے بعد یہ سونا آگ کی صورت اختیار کر کے آدمی کے ساتھ چپک جائے گا (التوبہ) حدیث میں اس قسم کی بہت سی مثالیں دی گئی ہیں کہ آدمی کا عمل اور اس کے اخروی نتائج کس طرح ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے۔

معراج کے سفر سے متعلق جو روایات میں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آسمانی سفر میں آپ کو جو چیزیں دکھائی گئیں ان میں وہ عالم مثال بھی تھا جہاں انسان کے ذیبوی اعمال اپنی اخروی صورت میں نظر آتے ہیں۔ بیان ایک طرف آپ کو اچھے اعمال کی اخروی صورتیں دکھائی گئیں۔ اسی طرح آپ کو تفصیل کے ساتھ برے اعمال کی اخروی صورتیں بھی دکھائی گئیں۔

آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچھے جا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہیں۔ فرشتہ نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگواری ان کو نہ کرنے کے لئے اٹھنے نہ دیتی تھی۔ اسی طرح آپ نے کچھ لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں بہت پیوند لگے

ہوئے تھے اور وہ جانوروں طرح گھاس چر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہیں۔ فرشتہ نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو اندکی راہ میں خرچ نہ کرتے تھے۔ پھر آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور حب وہ گٹھا اس سے نہیں اٹھتا تو وہ اس میں کچھ اور لکڑیاں بڑھاتیاں ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے۔ فرشتہ نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جن پر ذمہ داریوں اور امانتوں کا اتنا بوجھ تھا کہ وہ اٹھانے سکتا تھا مگر وہ ان کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے اور پر ڈال لیتا تھا۔

پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کی زبانیں اور ہونٹ تینپیوں سے کامٹے جا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں۔ فرشتہ نے بتایا کہ یہ وہ مفتر ہیں جو پر روک ٹوک زبان چلاتے تھے اور غیر ذمہ دارانہ باتیں کہہ کر فرشتہ برپا کرتے تھے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ ایک پھر میں چھوٹا سا سوراخ ہوا اور اس میں سے ایک بڑا سabil ملک آیا۔ اس کے بعد وہ بیل دوبارہ اسی سوراخ میں جانے کی کوشش کرنے لگا۔ مگر کوشش کے باوجود وہ دوبارہ اس کے اندر رنہ جاسکا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے۔ فرشتہ نے بتایا کہ یہ اس آدمی کی مثال ہے جو بے پرواہی کے ساتھ ایک قتنہ کی بات کہہ دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کے برعے نتائج دیکھو کہ اس کو واپس بینا چاہتا ہے گرو اپس نہیں لے سکتا۔ اسی طرح ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو خود اپنے جنم کا گوشہ کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں۔ فرشتہ نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دوسرے بھائیوں پر عن وطن نہ کرتے تھے۔

کچھ اور لوگوں کو آپ نے دیکھا۔ ان کے ناخن تابنے کے تھے اور وہ اس سے اپنے بخوبی
 اور سینے نوچ رہے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں۔ فرشتہ نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں
 جو دوسروں کے پیچے ان کی براتیاں کرتے تھے اور ان کی عزت و آبرو پر جملے کرتے تھے۔
 کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا۔ ان کے ہونٹ اور نمੌں سے ملے جلتے تھے اور وہ آگ کھا رہے
 تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں۔ فرشتہ نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال دینا
 میں کھاتے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بہت بڑے ہیں اور وہ
 سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ آنے جانے والے ان کو رومندتے ہوئے گزر جاتے ہیں،
 وہ اپنی جگہ سے بہل نہیں سکتے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ فرشتہ نے بتایا کہ یہ سو دے
 کھانے والے لوگ ہیں۔ پھر کچھ لوگ دکھائی دئے جن کے ایک جانب اچھا گوشت رکھا
 ہوا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آرہی تھی۔ وہ اچھے گوشت کو
 چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں۔ فرشتہ نے بتایا کہ یہ
 وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے جائز بیویوں اور شوہروں کو چھوڑ کر حرام سے اپنی
 خواہش پوری کی۔

جنت کا معاملہ بھی یہی ہے۔ قرآن میں جنت کو عطا مرتفعاً ہے کہا گیا ہے، یعنی ایسا
 انعام جو آدمی کے عمل سے ملا جلتا ہو۔ ارشاد ہوا ہے کہ جنت میں جب کوئی پھل انہیں
 کھانے کے لئے دیا جاتے گا تو اہل جنت کہیں گے کہ ایسے ہی پہل اس سے پہلے ہم کو دینا
 میں دئے گئے تھے اور ان کو دنیا کے پھلوں سے ملے جلتے پھل دئے جائیں گے (بنفوہ ۲۵)
 اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے انعامات دنیا کے عمل کے عین مطابق و مہاذیں ہوں گے۔
 دنیا میں کسی بندہ خدا کو جس عمل کی توفیق ملی ہو گی اسی سے ملا جلتا بد ل جنت میں اس کے حصہ

میں آئے گا۔

معراج کے سفر میں ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھتی کاش رہے ہیں۔ وہ جتنی کھتی کاشتے ہیں اتنی ہی ان کی کھتی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتہ سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ آپ کو بتایا گیس کہ یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں۔

دنیا میں آدمی کا اصل امتحان یہ ہے کہ وہ کسی صورت حال میں کس قسم کا جواب دیتا ہے۔ پتھر کے ساتھ کوئی صورت حال پیش آئے تو وہ اس کے جواب میں کوئی رویہ ظاہر نہیں کرتا۔ مگر انسان ایک احساس اور شعور رکھنے والی مخلوق ہے۔ انسان کے ساتھ جب کوئی صورت حال پیش آتی ہے تو وہ اس کے اندر پہل پسیدا کرتی ہے۔ وہ اس کے جواب میں اپنے ہاتھ یا زبان سے کوئی رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ اسی میں آدمی کا اصل امتحان ہے۔ ہر ایسے موقع پر خدا یہ دیکھتا ہے کہ آدمی نے اپنے فکر و عمل کی آزادی کو کس رخ پر استعمال کیا۔ اس نے گالی کے جواب میں گالی دی یا گالی کے جواب میں اس کی زبان سے دعائیں نکلیں۔

ہر صورت حال جو دنیا میں آدمی کے ساتھ پیش آتی ہے اس کے جواب کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک جہنمی جواب، دوسرا جنتی جواب۔ جہنمی جواب وہ ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے اور جنتی وہ ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ دوسرے نفشوں میں ایک جواب وہ ہے جو خیطانی اخلاقیات کے مطابق ہو، ابیے لوگ جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ دوسرا جواب وہ ہے جو خدائی اخلاقیات کے مطابق ہو، ایسے لوگ جنت کے لطیف ماحول میں بائے جائیں گے۔

شیطانی اخلاقیات یہ ہے کہ جب کوئی ناخوش گوار صورت حال پیش آئے تو آدمی بے خوف ہو کر جوابی کارروائی کرنے لگے۔ وہ نفرت کا جواب نفرت سے دے اور غصہ کے مقابلہ میں غصہ کا تحفہ پیش کرے۔ اس کے برعکس خدا تعالیٰ اخلاقیات یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے۔ وہ وقت بذباثت سے اوپر اٹھ کر سوچے اور نفرت اور محبت کی نفیات سے بلند ہو کر معاملہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ رہے رب نے حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے کئے میں اس سے جڑوں، جو مجھ کو محروم کرے میں اس کو دوں، جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں (وَإِن أَصْلَمْ مِنْ قَطْعَنِي وَاعْطَى مِنْ حَرْمَنِي، وَأَعْفُ عَمِّنْ ظَلَمَنِي)

اس طرح کے مختلف احکام ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن سے یہ مطلوب ہے کہ وہ لوگوں کے سلوک سے بالاتر ہو کر ان کے ساتھ معاملہ کرے۔ وہ منفی نفیات کے موقع پر مشتبہ نفیات ظاہر کرے۔ لوگوں کے درمیان زندگی گزارتے ہوئے بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ناخوش گوار واقعات پیش آتے ہیں اور آدمی کے اندر محن لفاذ جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر مومن کو یہ کہنا ہے کہ مخالفہ جذبات کو اندر ہی اندر دبائے۔ تلمذ کے باوجود وہ دوسروں کے ساتھ بہتر جذبات کے ساتھ پیش آئے۔ جنت ایک نہایت لطیف اور پاکیزہ مقام ہے جو اللہ خصوصی اہتمام کے ساتھ اپنے نیک بندوں کے لئے بنائے گا:

عن جابر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت و سلم ان اہل الجنة تیا کلوں فیما و کے لوگ کھابیں گے اور پیسیں گے مگر وہ نہ یشربون ولا یتفلون ولا یبیولون ولا تھوکیں گے اور نہ پیشاب کیں گے اور نہ

يَتَغُوطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ - قَالَوا فِي أَبَابِلَ
 الْطَّعَامَ قَالَ جِثَاءٌ وَرَسْحٌ كَرْشَحُ السَّكَّ
 يَلْهُمُونَ التَّسْبِيحَ وَالْحَمْدَ كَمَا تَلْهُمُونَ
 النَّفْسَ (مسلم)
 پاخا نہ کریں گے۔ لوگوں نے پوچھا پھر کہانے
 کا کیا ہوگا۔ فرمایا: ڈکارا در پسینہ نکلے گا جو
 مشک کی طرح خوشبو دار ہوگا۔ ان کو جسد
 اور تیسیں اسی طرح الہام کی جائے گی جس طرح
 تم سانس لیتے ہو۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت ایک ایسی دنیا ہے جہاں میں اور کثافت بھی خوبیوں
 کی صورت میں خارج ہوتی ہے۔ پھر اسی دنیا میں وہ لوگ کیوں کر داخل ہوں گے جو اپنی کثافت
 کو صرف کثافت کی صورت میں خارج کرنا جانتے ہوں۔ بغض، نفرت، حسد، انتقام اور کبر و ظلم
 یہ سب انسان کی نفیات کا میل کچیل ہے۔ جو لوگ اپنے میل کچیل کو صرف میل کچیل کی صورت
 میں نلا ہر کرنا جانتے ہوں وہ جنت میں بسانے جانے کے قابل نہیں۔

جنت خدا کے ان بندوں کی کالونی ہے جو اپنے اندر کے میل کو بھی پا کی کی
 صورت میں خارج کرتے ہیں۔ جنت میں وہ لوگ بسانے جائیں گے جو نفرت کے موقع
 پر محبت کریں۔ جو انتقام کے موقع پر معاف کر دیں۔ جو حسد اور بغض کے موقع پر خیر
 خواہی کا ثبوت دیں۔ جو کبر کے موقع پر خاکساری دکھائیں اور ظلم کے موقع پر انصاف
 کا رویہ اختیار کریں۔ یہ گویا اپنے میل اور کثافت کو خوبیوں کی صورت میں ظاہر کرنا
 ہے، انھیں خصوصیات والے لوگ جنت کی کالونیوں میں بسانے جائیں گے۔

دنیا کو اس ڈھنگ پر بنایا گیا ہے کہ یہاں بار بار آدمی کو ناخوشگوار صورت
 حال سے سابقہ پیش آئے۔ یہ موجودہ دنیا کے دارالامتحان ہونے کا تھا ضاہی۔ ان
 ناخوشگوار موقع پر جو شخص مثبت رد عمل کا انہصار کرے گا وہ جنت کا مستحق بنا اور جو

منفی جذبات کا شکار ہو جائے اس نے اگلی زندگی میں اپنے لئے جنت کا استحقاق کھو دیا۔

جنت کی فضاؤں میں بنسنے کے قابل وہ بوگ ہیں جن کا یہ حال ہو کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے تو وہ مایوس نہ ہوں بلکہ صبر کا طریقہ اختیار کریں۔ کسی سے ان کو تکلیف پہنچنے تو اس کے حق میں دعا میں دیں۔ کسی سے معاملہ پڑے تو انصاف کے مطابق اس کے حقوق ادا کریں۔ کوئی منقید کرتے تو اس کو برآمدے بغیر ٹھنڈے دل سے سین۔ کسی سے خواہ کتنی ہی شکایت ہو اس کے بارہ میں عدل کا رویہ نہ چھوڑیں۔ جب بھی کسی سے معاملہ پڑے تو دوسرے شخص کو ان سے بہتر سلوک کا تجربہ ہو۔ حتیٰ کہ دوسروں کے ناخوشگوار رویے اپنے سینے میں اگر نفرت و عدالت کے جذبات پسداہوں تب بھی وہ ان کو پی جائیں۔ اپنے مخالفانہ جذبہ کو وہ خیر خواہی اور انصاف کی صورت میں ظاہر کریں۔ وہ دنیا کی زندگی میں خدا کا ایسا پھول بن جائیں جو اپنی کشافت کو بھی خوبصورت میں ظاہر کرتا ہے۔ ایسی پاک زندگی گزارنے کی توفیق ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ کو اس طرح یاد کرنے لگیں جس طرح کوئی آدمی سانس لیتا ہے۔ وہ اللہ کو اس طرح پالیں کہ وہ ان کی روح کے اندر تیر جائے۔ وہ ان کے دل کی دھرمکنوں میں شامل ہو جائے۔ وہ اللہ کے خوف و محبت میں ہنا اٹھیں۔

وہ موقع جب کہ آدمی کے اندر سرکشی کی آگ بھڑکتی ہے اس وقت مومن کو تواضع کے ساتھ جھک جانا ہے۔ جب نفرت کے جذبات امند تے ہیں اس وقت اس کو محبت کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ جب بد خواہی کی نفیات ابھرتی ہے اس وقت اس کو خیر خواہی کا ثبوت دینا ہے۔ جب بد دعا کے کلمات زبان سے نکلتے ہیں اس وقت اس کو دعا کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرنا ہے۔ جب حقوق کو دبانے کا خیال

آنے لگتا ہے اس وقت حقوق کو پورے انصاف کے ساتھ لوٹانا ہے۔ جب حق کا اعتراض کرنے میں اپنا وقت اگر تباہ و انظر آتا ہے اس وقت وقار کا خیال چھوڑ کر حق کا اعتراض کر لینا ہے۔ جب کسی کے خلاف جوابی کارروائی کا ذہن ابھرتا ہے اس وقت جوابی کارروائی سے اپنے کو روک کر مخالف کے ساتھ دہی کرنا ہے جو خیر خواہی اور انصاف کے تقاضے کے مطابق ہو۔

اگر آپ طرک پر سوار ہوں تو طرک پر دوڑتا ہوا طرک آپ کو زبردست جھٹکے دے گا۔ اس کے بر عکس جب آپ ایک اچھی کار پر بیٹھتے ہیں تو تیز دوڑتے ہوئے بھی کار آپ کو جھٹکے نہیں دیتی۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ کار کے پہیے کے ساتھ شاک ایبزار بر لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے کار اپنے تمام جھٹکوں کو اپنے پہیے پر سہہ لیتا ہے، وہ جھٹکے کو سافر تک نہیں پہنچنے دیتی۔ اس کے بر عکس طرک ہیں اس قسم کا شاک ایبزار بہر نہیں ہوتا اس لئے اس کے تمام جھٹکے سافر تک پہنچتے رہتے ہیں۔ اللہ سے بے خوف آدمی طرک کی مانند ہے۔ وہ اپنے اندر کے نفیاتی جھٹکوں کو برداشت نہیں کرتا۔ وہ ان کو دوسروں کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ اس کے بر عکس اللہ سے ڈرنے والا آدمی کار کی مانند ہوتا ہے، وہ تمام ”جھٹکوں“ کو اپنے اوپر سہہ لیتا ہے، ان کو دوسرے انسان تک منتقل ہونے نہیں دیتا۔ اسی کا نام صبر ہے۔ صبر یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے جو ناخوشگواریاں پیش آئیں ان کو آدمی اندر، ہی اندر سہہ لے، ان کے اثرات دوسروں تک نہ پہنچنے دے۔ ناخوشگواری کے جھٹکوں کو اپنے اوپر لے کر دوسروں کی طرف ناخوشگواری کو منتقل کرے۔ یہی وہ صلاحیت ہے جو آدمی کو جنت میں آباد کئے جانے کے قابل بناتی ہے۔ جنت وہ ۶۵

لطیف مقام ہے جہاں کثافت بھی بـشکل خوشبو نلا ہر ہو گی۔ ایسی لطیف آبادی میں رہنے کا استحق صرف وہ شخص قرار دیا جائے گا جس نے دنیا کی زندگی میں یہ ثبوت دیا ہو کہ اپنی نفیا تی کثافت کو وہ خوشبو کی صورت میں خارج کر سکتا ہے، کثافت کا خوشبو کی صورت میں نلا ہر ہونا موجودہ دنیا میں نفیا تی اعتبار سے ہوتا ہے۔ آخرت میں یہی واقعہ اللہ کے حکم کے تحت مادی صورت میں پیش آتے گا۔

ایک حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ یہ آدمی کے اپنے اعمال ہیں جو آخرت میں اس کو لوٹائے جائیں گے (انہا ہی انہا لکھتے) (ایسکم) دنیا میں آدمی کے اخلاقی اعمال آخرت میں مادی نتائج کی صورت اختیار کر لیں گے۔ ہر واقعہ جو دنیا میں پیش آتا ہے اس میں آدمی کے لئے دو قسم کے جواب کا امکان رہتا ہے۔ اسی سے فیصلہ ہوتا ہے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنم۔

کوئی حق بات سامنے آتی ہے، اب ایک شخص اس کا اعتراف کرتیا ہے اور دوسرا شخص انکار کرتا ہے۔ کوئی معاملہ چڑتا ہے، اس میں ایک شخص انصاف پر قائم رہتا ہے اور دوسرا ظلم پر اتر آتا ہے۔ کوئی ناموافی صورت حال پیش آتی ہے، اب ایک شخص تو اوضع کا انداز اختیار کرتا ہے اور دوسرا شخص کرشی کرنے لگتا ہے۔ کوئی باہمی قضیہ ابھرتا ہے، اب ایک شخص محبت اور خیر خواہی کا رو یہ اپنا تناہے اور دوسرا شخص نفرت اور انتقام کا۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف رد عمل ہیں اور یہی آخرت کی زندگی میں آدمی کے انجام کی تشکیل کر رہے ہیں۔ ہمارے اخلاقی اعمال جب مادی صورت اختیار کر لیں تو انہیں میں سے ایک صورت کا نام جنت ہوتا ہے اور دوسری صورت کا نام جہنم۔

ارکان اسلام

ارکان اسلام

عن ابو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا۔
الخطاب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول :بُنْيِ الْاسْلَامْ عَلَى عَلیهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :بُنْيِ الْاسْلَامْ عَلَى
اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے۔
خوبی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد گوہی دینا کہ اللہ الالہ الا اللہ وَاشَ
اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور نماز قائم کرنا۔
اوْزُكُوتَةٌ دِيَنًا اور بیت اللہ کا حج کرنا اور
رمضان کے روزے رکھنا۔
رمضان (روادہ ابن القاری و مسلم)

بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہیں کہ اسلام کی تعمیر پانچ ستونوں (خمس دعائم) پر کل گئی ہے۔ کتاب الصلوٰۃ، محمد بن نصر المروزی، ایک عمارت اپنی تفصیلی صورت میں بہت سے اجزاء کا مجموعہ ہوتی ہے۔ مگر اسی عمارت جس چیز کے اور کھڑی ہوتی ہے وہ چند کھبے (pillars) ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کے لئے بھی یہ پانچ چیزوں کیمی کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان کے مضبوط ہونے سے اسلام مضبوط ہوتا ہے اور ان کے کمزور ہونے سے اسلام کمزور ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی کی ہستی ایک زمین کی مانند ہے۔ اگر وہ اپنی اس "زمین" پر خدا کی پسند والی عمارت کھڑی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ ان پانچ کھبیوں کو پوری مضبوطی کے ساتھ قائم کرے۔ ان کھبیوں کو سکاڑے

بغیرہ فرد کی سطح پر اسلام کا ظہور ہو سکتا ہے اور زندگی کی سطح پر۔

اسلام آدمی کے اندر جو زندگی پیدا کرنا چاہتا ہے وہ ایک لفظ میں عبادت یا خدا پرستی کی زندگی ہے۔ تاہم اپنی تفصیلی صورت میں وہ پانچ چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے: ایمان نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ پانچ چیزوں پانچ رسمیات ہیں ہیں بلکہ پانچ اوصاف ہیں۔ یہ ان مطلوب چیزوں کا خلاصہ ہے جو، سارا مالک ہماری زندگیوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ پانچ اوصاف آدمی کے اندر حقیقی طور پر پیدا ہو جائیں تو گویا اس کے اندر وہ بنیادی صلاحیت پیدا ہو گئی جس کے بعد یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس کی زندگی میں اس ربانی کردار کا ظہور ہو جس کو اسلام ایک ایک شخص کی زندگی میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔

ایمان کا مطلب خدا کی حقیقوتوں پر یقین ہے۔ نماز کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اللہ کی بڑائی کے آگے اس طرح بھلے کہ اپنی بڑائی کا احساس اس کے اندر سے ختم ہو جائے۔ روزہ اللہ کے بھروسے پر صبر کرنے کا نام ہے۔ زکوٰۃ یہ ہے کہ آدمی دوسرے کا حق ہجانے تاکہ خدا اس کو اس کے حصہ سے محروم نہ کرے۔ حج سے مراد یہ ہے کہ خدا کے بندے خدا کے گرد متحد ہو جائیں۔ یہ سب اپنی اپنی حقیقت کے اعتبار سے اوصاف ہیں نہ کہ مخف خابی مراسم۔ گویا کہ یقین، بُلْفُسی، صبر، حق شناسی اور اتحاد وہ پانچ صفاتی کہیے ہیں جن کے اوپر اسلامی زندگی کا گھر بنتا ہے۔

ایمان

اللہ کو اپنالہ بنانے کا اقرار اس کو اپناسب کچھ بنانے کا معاہدہ ہے۔ یہ اللہ کو اپنے احساسات اور جذبات کا مرکز بنانا ہے۔ یہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے ۴۹

کرتا ہے۔ یہ اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آدمی اپنی امیدوں اور تمناؤں، اپنے اندیشیوں اور
التحاؤں کا مرکز اللہ کو بنائے گا۔ وہ کہیں اور جینے کے بجائے اپنے رب میں جنے گا۔
آدمی کی امیدیں اور اس کے احساسات جہاں اٹھکے ہوئے ہوں، وہیں وہ آدمی
جی رہا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھئے تو ہر آدمی، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، کہیں نہ کہیں جی
رہا ہوتا ہے۔ کوئی اپنے گھر بار اور اپنے بال بچوں میں جیتا ہے۔ کوئی اپنے معاش اور
کار و بار میں جیتا ہے۔ کوئی اپنے سیاسی مشاغل اور قیادتی مصروفیات میں جیتا ہے،
کوئی اپنی عزت اور اقتدار کے خوابوں میں جیتا ہے۔ غرض ہر آدمی کہیں نہ کہیں جی
رہا ہے۔ مگر یہ تمام جینا جا ہلیت کا جینا ہے۔ یہ اپنا آشیانہ ایسی شاخوں پر بنانا ہے
جن کا حقیقتگی کوئی وجود نہیں۔ حقیقی جینا یہ ہے کہ آدمی اپنے رب میں جینے لگے۔ وہ اس
سہارے کو پکڑ لے جس کے سو اس کائنات میں کسی کے لئے کوئی سہارا نہیں۔ وہ اللہ
کی یاد کو لے کر سوئے اور اللہ کی یاد کے ساتھ صحیح کرے۔ وہ اسی کے بھروسہ پر پڑ کے اور
اسی کے بھروسہ پر چلے۔ وہ اسی کے لئے بولے اور اسی کے لئے خاموشی اختیار کرے۔

ایمان کی مثال بجلی کی کرنٹ کی سی ہے پا درہاوس سے بجلی کی کرنٹ جب کارخانہ
میں پہنچتی ہے تو سارا کارخانہ جگکا اٹھتا ہے۔ اس کی تمام کلیں حرکت میں آجاتی ہیں ماں
طرح جب کسی بندے کا اپنے رب سے ایمانی تعلق قائم ہوتا ہے تو اس کے اندر اچانک ایک
نئی روشنی آجاتی ہے، اس کی فطرت جاگ اٹھتی ہے۔ ایمان اس کے قلب کو گرمانے والا اور
اس کی روح کو تڑپانے والا بن جاتا ہے۔ وہ اس کے اندر ایک نئی الگ لگا دیتا ہے۔ وہ
انسان جو پہلی بار اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، وہ دوبارہ ایمان کی کوکھ سے
ایک نیا جنم لیتا ہے۔ وہ اب خدا سے الگ نہیں رہتا بلکہ خدا میں شامل ہو جاتا ہے۔

ایک شخص کو کسی سے محبت ہو تو جماں طور پر وہ اس سے جبارتے ہوئے بھی حیاتی طور پر وہ اس سے مل جاتا ہے۔ وہ ہر چیز میں اسی کا جلوہ دیکھنے لگتا ہے۔ یہی حال اللہ پر ایمان لانے والے کا ہوتا ہے۔ وہ آسمان کی وسعتوں میں خدا کی عظمت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ طوفانوں کی تہرانی میں اس کو خدا کا جلال دکھائی دیتا ہے۔ چڑیوں کے چھپے میں اس کو خدا کے نعم سنائی دیتے ہیں۔ سورج نکلنے ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ خدا نے اپنا نورانی ہاتھ اس کی طرف بڑھایا ہے۔ وہ درختوں کو دیکھتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا خدا کی تخلیقی کہانی سربز صفات کی صورت میں زمین کے اوپر پھیلا دی گئی ہے۔ ہوا کا جھونکا جب اس کو چھوتا ہے تو وہ اس کے لئے خدا سے اتصال کے ہم معنی بن جاتا ہے۔ غرض جو شخص خدا کاموں بن جائے وہ ہر آن خدا کے انکا ہمندیں غوط رکھتا رہتا ہے۔ ہر تجربہ جو اس کے ساتھ گزرتا ہے وہ اس کو خدا سے ملانے والا بن جاتا ہے۔ وہ خدا کا ہو جاتا ہے اور خدا اس کا۔

اللہ پر ایمان ایک ایسے خدا پر ایمان ہے جو ساری کائنات کا فاتح، مالک اور پروردگار ہے۔ اسی نے سب کچھ بنایا ہے، اسی کے سہارے ہر چیز قائم ہے، اس کے بغیر کسی چیز کا کوئی وجود نہیں۔ ایمان آدمی کے اندر اس شعور کو زندہ کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس حیثیت سے دیکھنے لگتا ہے کہ وہ ایک خدا کا بندہ ہے، ہر چیز میں اس کو خدا کا کشمکش نظر آتا ہے اور ہر عطیہ اس کو خدا کے ہاتھ سے ملتا ہوادکھائی دیتا ہے۔ خدا کا ذکر اور اس کی جمد ہر آن اس کے اندر سے البتہ رہتی ہے۔ ایسے آدمی کے لمحات غفلت کے لمحات نہیں ہوتے بلکہ ہوش مندی کے لمحات ہوتے ہیں۔ ہر موقع اس کے لئے خدا کی بارد لانے والا بن جاتا ہے۔

دن بھر کا تھکا، ہوا شام کو وہ اپنے بستر پر لیتی ہے، اس کو گھری نیند آ جاتی ہے۔ صبح کو وہ
 تازہ دم ہو کر اٹھتا ہے تو بے حساب احسان مندی کے جذبہ کے تحت اس کی زبان سے بخلتا ہے:
 خدا یا تیرا یہ احسان بھی کیسا عجیب ہے۔ اگر آدمی پر نیند نہ آئے تو وہ پاگل ہو جائے اور چند دن
 کی زندگی بھی اس کے لئے محال ہو جائے۔ رات کی تاریکی کے بعد جب سورج نکلتا ہے اور
 دنیا کو روشن کر دیتا ہے تو اس کا دل بے اختیار پکارا ٹھتا ہے: کیسی با برکت ہے وہ ذات
 جس نے روشنی پیدا کی۔ اگر روشنی نہ ہو تو سارے اعالم تاریکی کا ہمیب سمندر بن جائے۔
 جب اس کو بھوک لگتی ہے، وہ پانی پیتا ہے اور کھانا کھاتا ہے تو اس کی پوری ہستی شکر کی
 کیفیت سے بھر جاتی ہے۔ وہ حیران ہو کر سوچنے لگتا ہے کہ خدا اگر آدمی کے لئے کھانا اور پانی
 نہ اتنا رتا تو آدمی کا کبھی حال ہوتا۔ اس کو چوت لگتی ہے تو وہ خدا کو مدد کے لئے
 پکارتا ہے۔ اس کو حاجتیں پیش آتی ہیں تو وہ خدا ہمیں سے امید کرتا ہے کہ وہ اس کی حاجتوں
 کو پورا فرمائے گا۔ اس کو نفع ملتا ہے تو اس کو انسان کے اوپر خدا کی نوازشیں یاد آتی ہیں
 اور اس کا دل شکر کے جذبات سے بھر جاتا ہے۔ اس کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کو وہ خدا کی قدرت
 کا ایک کرشمہ سمجھتا ہے۔ نعمتوں کا ملنا اس کو مغور نہیں بناتا اور نقصان اس کے اندر بے
 صبری پیدا نہیں کرتا۔ کوئی عقیدت اس کے لئے خدا کی حریف نہیں بنتی۔ کوئی مصلحت
 اس کو خدا سے بے پرواہ نہیں کرتی۔

ایک شخص زین اور دوسراے اجرام کی قوت کشش کو دریافت کرے یا کائناتی
 شعاعوں کو اپنے آلات کی مدد سے پائے تو یہ اس کے لئے بعض ایک علمی یافت ہو گی۔ یہ پانے
 والے سے کسی ذمہ داری کا تھا شاہنہیں کرے گی۔ مگر خدا کو پانے کا معاملہ اس سے بالکل مختلف
 ہے۔ خدا کو پانا ایک ایسی ہستی کو پانا ہے جو سننے والا اور جانے والا ہے۔ جو حکمت اور
 ۷۲

جب آدمی اس یقین تک پہنچتا ہے تو وہ خدا کی ہیبت سے کانپ اٹھتا ہے۔ وہ پکار اٹھتا ہے : ”خدا یا مجھے اس دن رسوا ہونے سے بچا جب تو اپنی طاقتتوں کے ساتھ ظاہر ہو گا۔ جب انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا۔ جب آدمی با سکل بے بس حالت میں تیرے سامنے نکھڑا ہو گا۔ جب تیرے سو اکسی کے پاس کوئی اختیار نہ ہو گا۔“

خدا کو اللہ بنانے ہی کا ایک پہلو رسول کی رسالت کو مانا ہے۔ جب آدمی خدا کو ایک زندہ اور با شعور ہستی کی حیثیت سے پاتا ہے تو فوراً یہ سوال اس کے سامنے آ جاتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں اس کو اندر وہی فطرت سے اشارے ملتے ہیں۔ کافی نات اپنی خاموش زبان میں کچھ پیغامات نشر کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مگر وہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کے پیغام کو یقینی زبان میں پالے، وہ آئنے والے دن سے پہلے اس دن کے معاملات سے باخبر ہو جائے۔ عین اس وقت اس کو پیغیر کی آواز سنائی دیتی ہے : ”میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ اللہ نے مجھ کو انسانوں کی ہدایت کے لئے بھیجا ہے۔ میری طرف آؤ اور مجھ سے اپنے رب کے پیغامات معلوم کرو۔“

جو انسان حقیقتہ طالب ہو، جو فی الواقع سچائی کی تلاش میں ہو، اس کے لئے اس آواز کو پہچانا مشکل نہیں ہوتا۔ وہ تعصُّب اور غفلت کے ان تمام پردوں کو پہلے، ہی پہاڑ چکا ہوتا ہے جو آدمی کو گھیرے رہتے ہیں اور سچائی کی آواز کو اس کے اندر رداخل نہیں ہونے دیتے۔ ایک بچہ جس طرح اپنی ماں کی آواز کو پہچان لیتا ہے، اسی طرح وہ اس خدائی پیغام کو پہچان لیتا ہے جو پیغیر کی معرفت اس کے رب کی طرف سے اس کو پہنچ رہی ہے۔ پیغیر کی آواز اس کے لئے الیسی، ہی ثابت ہوتی ہے جیسے

طاقت کا خزانہ ہے۔ ایسے خدا کو جب ایک شخص پاتا ہے تو ٹھیک اسی وقت وہ اس حقیقت کو بھی پالیتا ہے کہ خدا نے اس کو اور کائنات کو عبث نہیں بنایا ہے۔ ایک عظیم اشان کائنات یوں ہی خاموش کھڑی رہے اور اس کی معنویت کبھی ظاہر نہ ہو، یہ ایک ایسی کائنات میں بالکل ناممکن ہے جس کا بنانے اور چلانے والا ایک علیم اور عزیز خدا ہو۔ اس طرح اس کی ایمانی یافت اس کو اس یقین تک پہنچاتی ہے کہ ضرور ہے کہ ایک دن ایسا کئے جب کہ وہ خدا لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے جو کائنات کے تمام واقعات کے پیچے کام کر رہا ہے، جب آدمی ان حقائق کو دیکھ کر جان لے جن کی بابت آج وہ نظر آنے کی وجہ سے جھگڑا رہا ہے۔

پھر یہی یقین اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ کائنات کے خاتم و مالک کاظہور اس قسم کا غیر متعلق ظہور نہیں ہو گا جیسے تاریک رات کے بعد روشن سورج نکلتا ہے۔ یہ ایک باشور اور محاسب و مجازی طاقت کاظہور ہو گا۔ خداوند کائنات کاظہور کائنات کے لئے نیامت کے ہم معنی بن جائے گا۔ خدا کے ظاہر ہوتے ہی اس کے تمام کریش اور خود پرست بندے خدا کی اس دنیا میں بے قیمت ہو جائیں گے۔ وہ اس دن کمھی ممحن سے بھی زیادہ حیر نظر آئیں گے۔ دوسری طرف اس کے خدا پرست اور وفادار بندے اچانک سفر ازی کا مقام حاصل کر لیں گے۔ خدا کا غیب میں ہونا خدا کے غیر وفادار بندوں کو اچھل کو دے کے موقع دئے ہوئے ہے۔ خدا کا ظاہر ہونا خدا کے وفادار بندوں کے لئے سفر ازی کا دن بن جائے گا۔ اس کے بعد ایک نئی، زیادہ بہتر اور مکمل دنیا شروع ہوگی جہاں کریش لوگ ابدی طور پر جہنم میں ڈال دئے جائیں گے۔ اور وفادار لوگ ابدی طور پر جنت میں خوشیوں اور لذتوں کی زندگی گزاریں گے۔

پڑول کی آگ یا سوکھی زمین میں بارش۔ اس کا پورا اندر وہ وجود ربانی روشنی سے بھر ک
اٹھتا ہے۔ اس کی تلاش کی سوکھی زمین حق کی بارش کے ایک ایک قطرہ کو جذب کرتی
چلی جاتی ہے۔ وہ خدا کو پانے کے ساتھ اس کے پیغمبر کو پالیتا ہے، اور پیغمبر کو پانے
کے ساتھ اپنے خدا کو۔

رسول کوئی فرشتہ یا کوئی غیر انسانی وجود نہیں۔ وہ بھی ایک انسان ہے اور سارے
انسانوں کی طرح ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کی خصوصیت صرف یہ
ہے کہ خدا نے اس کو اپنی پیغام رسانی کے لئے چن لیا۔ خدا نے دیکھا کہ وہ ایک ایسا
انسان ہے جس کی نظرت پوری طرح زندہ ہے۔ جس کے قول و عمل میں تضاد نہیں جس
نے نبوت سے پہلے چالیس سال کی عمر تک کبھی ایک بار بھی امانت کی ادائیگی میں کوتاہی
نہیں کی۔ وہ سچا ہے، وعدہ پورا کرنے والا ہے، وہ اپنے سینہ میں انسانیت کا درد
رکھتا ہے، وہ حق کے لئے اس سے زیادہ بے چین ہوتا ہے جتنا کوئی شخص اپنے
ذاتی منافع کے لئے بے چین ہوتا ہے۔

خدانے محمد بن عبد اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں وہ خالص روح پائی جو حق کی
امانت کا ایں بن سکے۔ اس نے اس کے اندر وہ غیر مصلحت پرستا نہ کردار پایا جو کسی
ادنی پیک کے بغیر ربانی ذمہ داری کو ادا کر سکے۔ اس نے اس عربی انسان میں وہ طلب دیکھی
جو اس بات کی فہامت تھی کہ وہ خدا کی اہمی امانت کی پوری مقدار دانی کرے گا۔
اور اس کو اسی طرح لے گا جس طرح اس کو لینا چاہئے۔ ان پہلوؤں میں یہ عربی انسان
چالیس برس کی زندگی تک انتہائی مکمل ثابت ہوا۔ اس نے خدا نے اس کو اپنے آخری
اور عالمی پیغمبر کی حیثیت سے چن لیا اور اس انسان کامل نے اپنی نبوت کی ۲۳ سال کی

زندگی سے ثابت کر دیا کہ خدا کا یہ انتخاب انہماً درست تھا۔ اس انسان کا مل نے پیغمبری کی ذمہ داری کو اتنی معیاری صورت میں انعام دیا کہ اس سے زیادہ معیاری صورت میں اس کی انعام دہی کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

پیغمبر کے ذریعہ، ہم کو خدا کی وہ محفوظ کتاب ملی ہے جو اس کے اوپر فرشتے کے ذریعہ اتنا ری گئی۔ اس کتاب میں وہ تمام چیزیں لکھی ہوئی صورت میں موجود ہیں جو اللہ کو ہم سے مطلوب ہیں۔ قرآن میں اللہ ہم سے انسانی زبان میں ہم کلام ہوتا ہے۔ پیغمبر نے اور آپ کے ساتھیوں نے ہر قسم کا بہترین اہتمام کر کے اس کو اس کی اصلی شکل میں محفوظ رکھا اور ہم کو پوری طرح پہنچا دیا۔ پیغمبر نہ صرف خدائی اہم کو وصول کرنے والا تھا بلکہ اس نے کامل اور مکمل صورت میں اس کو اپنی زندگی میں اختیار کیا۔ اس طرح پیغمبر کی زندگی اس ربانی ہدایت کا عملی نمونہ بن گئی جو قرآن میں نظقوں کی صورت میں ظاہر کی گئی تھی۔

پیغمبر نے گھریلو زندگی بنائی۔ وہ بستی اور بازاروں میں لوگوں کے درمیان رہا۔ اس نے دوستوں اور دشمنوں سے معاملہ کیا۔ اس کو فتح و شکست کے موقع پیش آئے۔ اس نے دعوت دی اور دعوتی مراحل سے گزرا۔ اس کو بھوک لگی اور اس نے چوٹ کھائی۔ اس نے مفسسی اور دولت مندی کے دن دیکھے۔ غرض ایک عام آدمی سے لے کر ایک نج اور بادشاہ تک انسانی زندگی کے جتنے مختلف تجربات ہیں، سب اس پر گزرے۔ ہر جگہ اس نے ایک ربانی انسان کا رویہ اختیار کیا۔ اس طرح اس کی زندگی قیامت تک تمام انسانوں کے لئے مکمل نمونہ بن گئی۔ ہر وہ آدمی جو اپنے رب کے یہاں اس حال میں پہنچتا چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہوا اور اس کو ابدی باغوں والے گھر میں داخل کرے، اس کے لئے ایک ہی راہ ہے۔ وہ قرآن سے اللہ کا حکم علوم

کے اور پیغمبر کی زندگی میں اس حکم کا عملی نمونہ دیکھئے۔ اور ان دونوں چیزوں کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اس کے سوا جتنی صورتیں ہیں، سب بھٹکنے کی صورتیں ہیں، نجات کی صورت اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ پیغمبر کی زندگی ایک ایسی بھلکل زندگی ہے جس میں چھوٹے لوگوں کے لئے بھی نمونہ ہے اور بڑے لوگوں کے لئے بھی۔

نماز

اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز اپنی متعین شکل کے اعتبار سے یہ ہے کہ روزانہ دن رات کے درمیان پانچ وقت مقررہ انداز میں اللہ کی عبادت کی جائے۔ یہ انداز جو رسول کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہیں سمجھایا ہے، اتنا جانتے ہے کہ اس سے زیادہ بہتر عبادتی انداز کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ جب وقت آتا ہے تو اذان کے ذریعہ اللہ کی بڑائی کا اعلان کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ نماز کا وقت آگیا، اپنی فلاح کے لئے جمع ہو جاؤ۔ لوگ وضو کر کے اپنے پاکی کے احساس کو تازہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ کو یاد کرتے ہوئے مسجد میں پہنچتے ہیں۔ وہاں سب مل کر نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کا ایک امام ہوتا ہے جس کی رہنمائی میں اجتماعی نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسی طرح سارے مسلمان خدا کے رسول کو اپنا مرکز اجتماع قرار دے کر اس کے گرد تحد زندگی گزاریں گے۔ رکوع و سجود اور قیام و قعود کی مختلف حالتوں کے ذریعہ خدا کے سامنے اپنی بندگی کا اقرار کیا جاتا ہے۔ کبھی دست بستہ کھڑے ہو کر، کبھی جھک کر، کبھی نیازمند رانہ پیٹھ کر کبھی اپنے سر کو زمین پر رکھ کر خدا کے ساتھ اپنے عہد بندگی کو تازہ کرتے ہیں۔ نماز میں قرآن کے حصے پڑھتے جاتے ہیں۔ قرآن کی ایک عجیب خصوصیت یہ ہے کہ اس کو جہاں کہیں سے اور جتنا کبھی پڑھئے، قرآن کی دعوت کا تعارف مل جاتا ہے۔

قرآن کا ہر صفحہ گویا قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس طرح نماز میں اگرچہ بیک وقت قرآن کا مختصر حصہ پڑھا جاتا ہے مگر وہ اللہ کی پسند و ناپسند کو جاننے کے لئے ہمیشہ کافی ہوتا ہے۔

اسی کے ساتھ نماز میں خدا کی حمد اور ذکر کے کلمات بولے جاتے ہیں، اس سے دعا کی جاتی ہے، رسول کے لئے اور تمام اہل ایمان کے لئے نیک جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کا خاتمه تمام انسانوں کو سلامتی بخش کر کیا جاتا ہے۔ اس طرح اپنے مختلف اجزاء کے ذریعہ نماز ایک ایسا عمل بن جاتی ہے جو بیک وقت اللہ کی عبادت بھی ہے اور اللہ کے حکਮوں کی یاد ہانی بھی۔ وہ اہل ایمان کے لئے دینی غذا بھی ہے اور ان کے درمیان اتحاد و اجتماعیت کا ذریعہ بھی۔ وہ اسلامی زندگی کا نشان بھی ہے اور نظم و ضبط کی تربیت بھی۔ وہ اللہ سے روحانی اتصال کا مقام بھی ہے اور روزمرہ کی زندگی میں حرکت و عمل کا سبق بھی۔

نماز اپنی شکل کے اعتبار سے مخصوص عبادت کا نام ہے اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے تواضع اور توجہ الی اللہ کا۔ اپنے مقابلہ میں کسی کی عظمت تسلیم کرنے کے لئے آدمی زبان سے جو آخری کلمہ بول سکتا ہے وہ یہ کہ وہ کہے "وہ سب سے بڑا ہے" نماز میں بار بار یہ کلمہ (اللہ اکبر) خدا کے لئے بولا جاتا ہے اور اس طرح اپنے مقابلہ میں خدا کی مطلق کبریائی کا انسانی اقرار کیا جاتا ہے۔ جسمانی طور پر کسی کی بڑائی کے اعتراف کی آخری صورت سجدہ ہے۔ سجدہ سے بڑھ کر کوئی صورت نہیں ہو سکتی جس سے آدمی دوسرے کی عظمت کا جسمانی اعتراف کرے۔ نماز میں بار بار خدا کے آگے سجدہ کر کے خدا کی بی مثال عظتوں کا عالی اعتراف کیا جاتا ہے۔ کسی کو اپنی زندگی کا مرکز و محور بنانے کی سب سے زیادہ کامیاب ہیئت جو تصور کی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے چہرے کا رخ پوری طرح

اس کی طرف کر دے۔ نماز میں بیت اللہ کی طرف رخ کا اہتمام کر کے ظاہر کیا جاتا ہے کہ بندے نے اپنی زندگی کو خدا کی طرف موڑ دیا، اس نے اپنی زندگی کو اندر سے لے کر باہر تک خدارخی (God-oriented) بنانے کا فیصلہ کر لیا۔

اللہ کے آگے بندے کے اس جھکاؤ سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ صرف خدا کے سامنے جھکاؤ تک نہیں رہتی، وہ اس کی مستقل کیفیت بن جاتی ہے۔ جو ادمی اللہ سے ڈرنے لگے، جو اللہ کے آگے جھک جائے۔ جو اللہ کے مقابلہ میں اپنے کوبے حقیقت بنالے وہ بندوں کے سامنے آئے گا تو ناممکن ہے کہ یہاں اس کے روی میں اس کے عبادتی اثرات ظاہر نہ ہوں۔

وہ انسان کے آگے سجدہ میں نہیں گرے گا مگر وہ اس ان کے مقابلہ میں گھنٹ بھی نہیں دکھائے گا۔ وہ اس ان کو "تو بڑا ہے" نہیں کہے گا مگر اپنی بڑائی کا سکر کے قابلہ میں کوشش بھی نہیں کرے گا۔ نماز میں اس کا ساجد بنا بندوں کے مقابلہ میں تواضع کی صورت میں ظاہر ہو گا۔ نماز میں اس کا خدا کی تابع راری کا اقرار کرنا بندوں کے معاملات میں حقوق کی ادائیگی کی صورت میں ظاہر ہو گا۔ نماز میں اس کی رخ بنتی بندوں کے معاملات میں اصول کی پابندی کی صورت میں ظاہر ہو گی۔ وہ انسان جو خدا کے سامنے کامل بندگی کا اقرار کر کے مسجد سے نکلا تھا، وہ بندوں کے درمیان کامل اخلاق کا نمونہ بننا ہوا دکھائی دے گا۔ — نماز کسی بندے کے معاملات کو خدا کے ساتھ عجز کی بنیاد پر قائم کرتی ہے اور بندوں کے ساتھ اس کے معاملات کو تواضع کی بنیاد پر۔

روزانہ پانچ وقت کی نمازوں کے علاوہ نماز کی اور بھی کئی صورتیں ہیں۔

رات کو تہجد کی نماز، کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آنے کے وقت کی نماز، حاجت اور استخارہ کی نماز، اسی طرح جمہ اور عیدین کی جماعت، جنازہ کی نماز جماعت، وغیرہ۔ یہ نمازوں اسی کیفیت کو مزید اضافہ کے ساتھ مواصل کرنے کی کوششیں ہیں جو پہنچ وقت نمازوں سے ہر روز مطلوب ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز اگر پوری طرح کسی کو مل جائے تو وہ اس کی پوری زندگی میں شامل ہو جاتی ہے۔ وہ ایک نیا کام شروع کرے تو دور کعت نماز پڑھ کر خدا سے مدد کی درخواست کرتا ہے۔ وہ کسی مقام پر پہلی بار جائے تو وہاں وہ نماز پڑھ کر اپنے رب کی یاد کرتا ہے۔ کوئی مسئلہ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو نماز پڑھ کر اپنے دل کی گرہ کو کھونے کی کوشش کرتا ہے۔

یہی حال بندوں سے تعلقات کے معاملہ میں بھی ہوتا ہے۔ بندوں سے معاملہ کرتے ہوئے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا نماز اس کے ساتھ ایک خدائی نگار اس کی طرح لگی ہوئی ہے۔ دنیا کی بھیل ہوئی زندگی میں اپنا حصہ ادا کرتے ہوئے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ساری زمین خدا کی مسجد ہے اور ہر جگہ اس کو اپنی عبادت گزاری کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔

روزہ

اسلام کا تیسرا رکن روزہ ہے۔ روزہ میں آدمی صبح کو فخر سے لے کر شام کو سورج ڈوبنے تک نہ کوئی کھانے کی چیز کھاتا اور نہ پینے کی چیز پیتا۔ اس طرح اپنی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت کو چھوڑ کر وہ صبر (رکنا اور برداشت کرنے) کی تربیت حاصل کرتا ہے۔ کھانا پینا چھوڑنے کی وجہ سے اس کو دن میں بھوک لگتی ہے۔ پیاس تلتی ہے،

اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے معولات درہم برم ہو جاتے ہیں۔ اس کی پوری زندگی
کا نظام تلپٹ ہو جاتا ہے۔ مگر وہ ان تمام چیزوں کو برداشت کرتا ہے۔

وہ ناخوشگواریوں کو جھیلتا ہے۔ وہ اپنی جسمانی تکلیفوں پر قابو رکھتے ہوئے
اپنے ہوش و حواس کو برقرار رکھتا ہے۔ وہ مشکلات کے باوجود اپنے فراپض اور
ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پانی ہوتا ہے مگر
پیاس کے باوجود وہ اس کو نہیں پیتا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کھانا ہونا ہے
مگر بھوک کے باوجود وہ اس کو نہیں کھاتا۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو اس کے لئے
تیار کرتا ہے کہ وہ ایک پابند اور ذمہ دار زندگی گزارے۔ وہ وہی کرے جو اس
کو کرنا چاہتے ہے۔ اور وہ نہ کرے جو اس کو نہیں کرنا چاہتے۔ خواہ کسی بھی قسم کی مشکل پیش
آئے، ہر حال میں وہ اصل مقصد حیات کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھے۔

خدا نے دنیا کی زندگی میں بے شمار نعمتیں انسان کو دے رکھی ہیں۔ مگر نیعتیں
خود بخود ملتی رہتی ہیں، اس لئے آدمی کو ان کا احساس نہیں ہوتا۔ آدمی کو ایک
بے حساب قسم کا پیچیدہ جسمانی نظام دیا گیا ہے۔ ایک رگ میں فرق آ جائے تو سارے
جسم کا توازن بگڑ جائے۔ دنیا میں دھوپ، ہوا، پانی، اور لاعداد دوسروی
چیزیں جیرت انگین طور پر اس کے لئے کار آمد بنادی گئی ہیں۔ اگر ایک چیز بھی
ان میں سے نہ رہے تو زندگی عذاب بن جائے۔

یہ نام چیزیں بغیر کسی اکتسابی کوشش کے آدمی کو ملتی رہتی ہیں، اس لئے
آدمی ان کی اہمیت کو سمجھ نہیں پاتا۔ روزہ میں انسان کو اس کی انتہائی بندی دی
ضرورت سے عارضی طور پر کچھ دیر کے لئے روکا جاتا ہے۔ اور اس طرح اس

کے اندر خدا کی نعمتوں کا شعور جگایا جاتا ہے۔ دن بھر کی بھوک، پیاس، تھکن اور بے آرامی کے بعد شام کو جب آدمی کھانا کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے تو اس کو اپنی محتاجی اور خدا کی بے پناہ بخششوں کا احساس ہوتا ہے، وہ اللہ کے شکر کے جذبہ سے بھر جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جس خدا نے ایسی نعمتیں دی ہیں، اس کے لئے اگر میں اپنی پوری زندگی بھی قربان کر دوں تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔

دنیا میں مومن کو جوز زندگی گزارنی ہے وہ شروع سے آخر تک صبر کی زندگی ہے۔ اس کو اللہ کی جائزوں کی ہوئی چیزوں تک اپنے کو محدود رکھنا ہے، اس کی ناجائز کی ہوئی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ حق پرستانہ زندگی کی راہ میں آنے والی مشکلات کو برداشت کرنا ہے۔ دوسروں کی طرف سے پیش آنے والی تسلیفوں کا جواب دینے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہے بلکہ ان کو سہتے ہوئے اپنے فریضہ حیات کو پورا کرنے میں لگے رہنا ہے۔ اس کو دنیا کے نقصانات کی پرواہ کرتے ہوئے آخرت کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے۔

ایسے کام موقوع پر جب کہ اس کے نفس کو چوٹ لگے، جب اس کے اندر کوئی ناپسندیدہ بات پیش آنے کی وجہ سے اشتعال پیدا ہو تو اس کو منفی رد عمل سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور ہر حال میں اپنے آپ کو ثابت مقاصد کے لئے وقف رکھنا ہے یہ تمام چیزوں بے پناہ صبر و برداشت چاہتی ہیں۔ صبر کے بغیر کوئی شخص اسلام کے راستہ کا مسافر نہیں بن سکتا۔ روزہ ہر سال اسی صبر کا سبق دیتا ہے۔ وہ ایک مہینہ تک صابر از زندگی کی مشق کراکر آدمی کو تیار کرتا ہے کہ وہ سال کے بقیہ ہمینوں کو صبر کے ساتھ گزار سکے۔

حقیقت یہ ہے کہ مومن کی پوری زندگی ایک قسم کی روزہ دار زندگی ہے۔ اس کو تمام عمر برائی سے، منفی تدبیروں سے، بے صبری کے اقدامات سے، دوسروں کو ستانے سے، اللہ کے حرام کو حلال کرنے سے روزہ رکھ لینا ہے۔ سال کے ایک ہفتہ میں ضروریات زندگی پر پابندی لٹکا کر اسی قسم کی ”روزہ دار“ زندگی کی مشق کرانی جاتی ہے۔ روزہ اپنی شکل کے اعتبار سے مقررہ اوقات کے لئے کھانا پانی چھوڑنا ہے اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے صابر ان زندگی کی تربیت۔

زکوٰۃ

اسلام کا چوتھا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کمائی اور اپنی دولت سے ہر سال ایک مقررہ رقم (عام طور پر ڈھانی فی صد) اللہ کے نام پر بخالی جائے۔ اور اس کو دین کی ضرورتوں اور حاجت مندوں کے اوپر خرچ کیا جائے۔ یہ زکوٰۃ ایک قسم کی سالانہ یادداہی ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے، اس کو چاہئے کہ اپنی کسی چیز کو خدا سے بچا کر نہ رکھے۔

دنیا میں آدمی جو کچھ حاصل کرتا ہے، اس کا اپنا حصہ اس میں بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ زین و آسمان کے اندر جو بے شمار اعلیٰ ترین انتظامات یہیں اگر وہ ساختہ نہ دیں تو آدمی نہ کوئی دادا گا سکے، نہ موشیوں کی پروش کر سکے، نہ صنعتیں فتائم ہو سکیں، نہ اور کوئی کام کرنا ممکن ہو۔ انسان کے اپنے وجود سے لے کر باہر کے عالم تک جو خدا تی انتظامات ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر خدا اپس لے لے تو آدمی کی ساری کوششیں اور منصوبے اکارت چلے جائیں اور کوئی نتیجہ پیدا نہ کریں۔

زکوٰۃ اسی حقیقت واقعہ کا مالی اعتراف ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آدمی اپنے مال کو خدا کمال سمجھے۔ وہ اپنی کسانی میں خدا کا حق تسلیم کرے۔ اس معاملہ میں زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ تاہم کم سے کم کی حد تقریر کر دی گئی ہے۔ قانونی زکوٰۃ کی صورت میں آدمی ہر سال خدا کا دو حصہ بخالتا ہے جو کم سے کم اسے خدا کے نام پر دینا چاہئے۔ اور پھر اس کو جمع کمکے خدا کی مقرر کی ہوئی مددوں میں خرچ کیا جاتا ہے۔

اس بخالتے میں آدمی کو نہ تو یہ اجازت ہے کہ وہ اس کو دوسروں کے اوپر احسان سمجھے اور نہ اس کو ایسا کرنا چاہئے کہ پانے والوں کو ذلیل کرے۔ اس کو اس جذبہ کے تحت دینا چاہئے کہ یہ خدا کی طرف سے آیا ہوا دوسروں کا حصہ ہے اور وہ اس کو حق داروں کی طرف لوٹا رہا ہے۔ وہ اس لئے دوسروں کو کھلانے تاکہ خدا آخرت کے دن اس کو کھلانے، وہ اس لئے دے تاکہ خدا آخرت کے دن اس کو محروم نہ کرے۔

زکوٰۃ ان ذمہ داریوں کی ایک علامت ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسانوں کے درمیان ادا کرنے ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہر آدمی دوسرے آدمی کا حق پہچانے، ہر آدمی دوسرے آدمی کے لئے دردست ہو۔ یہ جذبہ بات یہاں تک ترقی کریں کہ آدمی خود اپنی چیزوں تک میں دوسرے کا حصہ سمجھنے لگے۔ دوسرے سے کوئی معاوضہ نہ ملتے ہوئے بھی وہ اس کے کام آتے۔ دوسرے سے نفع کی امید نہ ہوتے، ہوئے بھی وہ اس کی عزت کا بگھبان ہو۔ دوسرے سے رشتہ اور دوستی کا تعلق نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس کا خیر خواہ ہو۔ زکوٰۃ ایک طرف آدمی کو یہ سیئت دیتی ہے کہ اس کی ہر چیز خدا کا اعطیہ ہے۔ دوسری طرف اس کو یہ احساس

دلا تی ہے کہ تم اگر خدا کے بندے ہو تو تم کو معاشرہ کے اندر بے درد اور خود غرض بن کر نہیں رہنا چاہئے۔ بلکہ تمہاری زندگی میں دوسروں کا بھی حصہ ہونا چاہئے۔

سماجی تنظیم کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے کام صرف اس وقت آئے جب کہ اس کو دوسرے سے نفع کی امید ہو۔ وہ کسی کو قرض دے تو اس اعتماد پر دے کہ وہ سود کے ساتھ اس کی طرف اضافہ شدہ حالت میں لوٹے گا۔ ایسے معاشرہ میں استھان کامزاج فروع پاتا ہے۔ ہر آدمی دوسرے آدمی کو دبانا اور لوٹا چاہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا سماج بدنظمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے سماج میں کسی کو بھی سکون حاصل نہیں رہتا۔ خواہ وہ امیر ہو یا غریب۔

سماجی تنظیم کی دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی خدا سے بدلتے پانے کی امید پر دوسرے انسان کے کام آئے۔ وہ اس خلائی یقین دہانی کی بنیاد پر دوسرے کو دے کہ خدا اس کو آخرت میں بہت زیادہ بڑھا کر لوٹائے گا۔ ایسے معاشرہ میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور بے تعلقی کے جذبات فروع نہیں پاتے۔ لوگ ایک دوسرے کو استھان کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ سماج میں باہمی تاراضی اور انتشار کی فضا پیدا نہیں ہوتی۔ ہر ایک دوسرے کی طرف سے امن میں رہتا ہے۔ اور پورا سماج سکون اور خوش حالی کا سماج بن جاتا ہے۔ زکوٰۃ ظاہری اعتبار سے ایک قسم کا سالانہ "ٹیکس" ہے اور حقیقت کے اعتبار سے اپنی ملکیت میں خدا اور بندے کے حق کا اعتراف۔

جج

اسلام کا پانچواں رکن ج ہے یہ سال میں ایک بار ساری دنیا کے مسلمان مرکز

اسلام میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں مخصوص اجتماعی عبادات انجام دیتے ہیں۔ حج کی عبادات کیا ہیں۔ یہ دراصل ان اسلامی تعلیمات کو علامتی طور پر دھرا ناپے جو اسلام میں معنوی طور پر مطلوب ہیں۔ یہ اسلام کے احکام کو مخصوص صورتوں میں تشکل کر کے اللہ سے یہ عملی عہد کرنا ہے کہ آدمی انہیں بنیادوں پر اپنی زندگی کو قائم کرے گا۔ اسلام کی دوسری عبادات میں بھی اگرچہ یہ پہلو موجود ہے۔ تاہم حج میں زیادہ بڑے پیمانہ پر اور مجموعی شکل میں یہ تمام چیزیں اکٹھا کر دی گئی ہیں۔

اسلام چاہتا ہے کہ انسانوں کے درمیان ہر قسم کے مصنوعی امتیازات ختم ہو جائیں اور تمام انسان ایک خدا کے بندے بن کر دنیا میں زندگی گزاریں، احلام باندھنا اسی کی ایک علی صورت ہے جس میں مختلف قوموں اور مختلف ملکوں کے لوگ یکساں طور پر ایک ہی سادہ لباس پہنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ آدمی کی زندگی خدا کے گرد گھونٹنے لگے، کعبہ کے گرد گھومنا اسی کا ایک علامتی ظاہر ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ خدا کے بندے خدا کی راہ میں دوڑ دھپ کرنے والے نہیں، صفا و مردہ کے درمیان دوڑ (سمی) اسی کی ایک مشق ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب خدا کی پکار بلند ہو تو اس کے بندے اس کی پکار پر دوڑ پڑیں، حج کے دوران بار بار لبیک اللہم لبیک (حاضر ہوں خدا یا میں حاضر ہوں) کہنا اسی کا ایک علی اقرار ہے اسلام چاہتا ہے کہ آدمی اس دن کو یاد کرے جب کہ سارے انسان خدا کے یہاں جمع کئے جائیں گے، عرفات کے وسین کھلے، ہوئے میدان میں تمام حاجیوں کا قیام اسی کی ایک ظاہری یاد رہانی ہے۔

اسلام یہ چاہتا ہے کہ آدمی شیطان سے بیزار ہو۔ اور ہمیشہ اس کو اپنے سے دور

بھگاتار ہے، رنی جمار کے موقع پر شیطان کی پتھر کی علامتوں پر کھنکریاں ادا اس کا ایک علی سبق ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان ہر حال میں خدا کے عہد پر قائم رہے خواہ ایسا کرنے والے کے لئے جان و مال کی قربانی کی قیمت پر کیوں نہ ہو، منی میں جانور کو قربان کرنا اسی کی ایک خارجی علامت ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اجتماعی زندگی میں لوگ ایک دوسرے کی طرف سے پیش آنے والی ناگواریوں کو برداشت کریں، جو کے زمانہ میں اس کی خصوصی تربیت ہوتی ہے۔ مختلف قسم کے لاکھوں لوگ یہی وقت ایک مقام پر جمع ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار ایسے موقع آتے ہیں جب کہ ایک کو دوسرے سے تکلیف پہنچے۔ جو کے دنوں میں خصوصی طور پر لازم کرو یا سیا کر غصہ، بدکلامی، مارپیٹ، کسی جان کو تکلیف پہنچانا، بے جیانی اور بد دینتی کے کام سے مکمل پریزیر کیا جائے۔ اللہ سے بہتر سلوک پانے کے شوق میں بندوں کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے۔

جو خدارخی زندگی گز ارنے کا سبق ہے۔ وہ آخرت کے ہوناک دن کو یاد دلاتا ہے۔ وہ خدا کے لئے سرگرم ہونے کا ریہس ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ آدمی کو خدا کے راستے میں جدو ہجد کرنے والا بننا چاہئے۔ وہ انسان کو بتاتا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے اس کو کبھی اپنے قریب آنے کا موقع نہ دو۔ اس کا پیغام ہے کہ اللہ کے انعامات حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے لئے اپنے جان و مال کو قربان کرو۔ وہ عملی حالات پیدا کر کے بتاتا ہے کہ مختلف انسانوں کو ایک دوسرے کی ناخوش گواریوں کو برداشت کرتے ہوئے انصاف اور خیر خواہی کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہئے۔ وہ انسانی مساوات کا عظیم اثاث مظاہرہ ہے۔ غرض جو ایک ایسی مکمل عبادت ہے کہ آدمی

اگر اس کو صحیح طور پر اخبار مدمے لے تو اس کے تمام معاملات درست ہو جائیں، خواہ
یہ معاملات خدا سے تعلق ہوں یا انسانوں سے متعلق۔

رج کی عبادت اگرچہ زندگی میں صرف ایک بار ادا کرنے کا حکم ہے، لیکن وہ اتنی
عظیم عبادت ہے کہ اگر ایک بار بھی اس کو اس کے تمام آداب اور تقاضوں کے ساتھ پوری
طرح ادا کر لیا جائے تو ہمیشہ اس کا اثر باقی رہتا ہے، ایک بار کی عبادت ساری عمر کی
اصلاح کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔



ادمی کا اسٹھان



آدمی کا امتحان

پہلا انسان جو خدا نے پیدا کیا وہ آدم تھے۔ اس وقت خدا کی پیدا کی ہوئی دو مخلوقات اور تعیین۔ ایک فرشتہ، دوسرا جن۔ خدا نے فرشتوں اور جنوں کو حکم دیا کہ تم سب آدم کے آگے سجدہ کرو۔ فرشتے خدا کا حکم سننے، ہی سجدہ میں گر پڑے۔ مگر ابلیس، جو جنوں کا سردار تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ خدا نے کہا: تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب کہ میں نے اس کا حکم دیا تھا۔ ابلیس بولا: میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھ کو آگ سے (اعراف ۱۲) ابلیس خدا کو سجدہ کرنے کے لئے تیار تھا۔ مگر وہ آدم کو سجدہ کرنے پر راضی نہ ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ملعون اور جہنمی قدردار دے دیا گیا۔

یہی معرکہ آدم کی اولاد میں آج بھی جاری ہے۔ ایک طرف فرشتے ہیں جو آدمی کو تسلیم اور اعتراف کا سبق دے رہے ہیں۔ دوسری طرف ابلیس ہے جو انسان کی رگوں میں تیرتا ہے۔ اور آدمی کو اکتا تا ہے کہ وہ خود پسندی (انا خیر منہ) کا طریقہ اختیار کرے اور اس کا ہم ملک بن جائے۔ اس طرح ہماری زندگی میں دوبارہ بہت بڑے پیمانے پر وہی کہانی دھرائی جا رہی ہے جو پہلے انسان کی پیدائش کے وقت ابتداء پیش آئی تھی۔

دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہم کبھی نہ کبھی ایک "آدم" سے دوچار ہوتے ہیں۔ ہمارا سابقہ کسی انسان سے پڑتا ہے اور اس کا کوئی ذکر کوئی حتیٰ ہمارے

اوپر عالد ہوتا ہے، خواہ وہ ایک اچھے بول کی صورت میں کیوں نہ ہو۔ ایسے ہر موقع پر خدا اپنی خاموش زبان میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے حکم کی تعییں میں اس آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ اب جو لوگ فرشتوں کی روشن کو اختیار کریں اور اپنے بارے میں خدا کے حکم کو پہچان کر اپنے آپ کو اس کے آگے ڈال دیں، وہ خدا کے وفا دار بندے ہیں۔ وہ ابدی جنتوں میں جگہ پائیں گے۔ اور جو لوگ ابلیس کا طریقہ اختیار کریں اور اپنی بڑائی کی خاطر دوسروں کے آگے جھکنے کے لئے تیار نہ ہوں، وہ خدا کے باغی لوگ ہیں۔ وہ ابلیس کے ساتھ جہنم میں ڈال دئے جائیں گے تاکہ وہاں ابدی طور پر جلتے ہیں۔

رسیں:

شیطان بولا؛ جیسا تو نے مجھے بدر اک کیا ہے، ہیں
قال فما غویتني لا قعدان لهم صراطك
تیری سیدھی راہ پر انسانوں کی تاک میں ہیجوں گا۔
المستقيم۔ شملاتینهم من بین ابديهم
میں ان پر آؤں گا آگے سے اور پسچھے سے، دایں
ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائهم
سے اور بائیں سے۔ اور تو ان میں سے اکثر کشکنار
وكاجد اکثرهم شکرین قال اخرج
نہ پائے گا۔ اللہ نے کہا: نکل یہاں سے ذلیل
منها مدعماً مد حوراً من تبعدى
منهم لا ملئُ جهنم متکم اجمعين
و خوار ہو کر۔ ان میں سے جو کوئی تیسری راہ
منهم لا ملئُ جهنم متکم اجمعين

(اعراف ۱۸-۱۹) چلاتو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔

انسان خدا کا بندہ ہے۔ اس کو اصل بحدہ خدا ہی کو کرنا ہے۔ مگر دنیا کی زندگی میں وہ جن لوگوں کے درمیان رہتا ہے، ان کے مقابلہ میں بار بار اس پر کسی نہ کسی کا حق آتا ہے اور بار بار خدا کا حکم ہوتا ہے کہ یہاں تم اس "آدم" کے سامنے جھک جاؤ۔ یہی آدمی کا اصل امتحان ہے۔ خدا کو سجدہ کرنے کے لئے آدمی آسانی سے تیار ہو جاتا ہے۔

مگر جہاں اس کو کسی انسان کا اعتراف کرنا ہو، جہاں کسی انسان کے سامنے جھکنے کا سوال ہو وہاں فوراً اس کے اندر الیں والی نفیات جاگ اٹھتی ہیں۔ ”بیں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں اس کے سامنے جھکوں“ یہ احساس شعوری یا غیر شعوری طور پر، اس کے لئے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ وہ جس خدا کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے، اس خدا کے حکم کے باوجود ”آدم“ کے آگے جھکنے سے انکار کر دیتا ہے۔

دو آدمیوں کے درمیان ایک معاملہ پڑتا ہے۔ اس معاملہ میں ایک حق پر ہوتا ہے اور دوسرا ناحق پر۔ جو شخص حق پر ہے وہ گویا دوسرے شخص کے لئے وقت کا ”آدم“ ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان اس صورت حال کا پیدا ہونا، یہ خدا کا یہ حکم آجانا ہے کہ میرے بنائے ہوئے اس آدم کے سامنے میری خاطر جھک جاؤ۔ اب جو شخص اپنے حریف کے حق کو مانتے ہوئے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، اس نے ذرختوں کی پیر دی کی۔ اور جس شخص کے لئے اس کی ”بیں“ حق کے اعتراض میں مانع ہو جائے، جو اس ذہن کے تخت حق دار کے سامنے جھکنے سے انکار کر دے کہ میری پوزیشن مضبوط ہے، یہ شخص میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس نے الیں کی پیر دی کی۔ خدا کے سامنے سجدہ کرتا اس کی نجات کا سبب نہیں بن سکتا۔ خدا کے آگے سجدہ صرف اس شخص کا معتبر ہے جو خدا کے حکم کی تعییل میں اس کے بنائے ہوئے ”آدم“ کے سامنے بھی جھکنے پر راضی ہو جائے۔

جو شخص یہ کہے کہ میں خدا کے لئے سجدہ کروں گا مگر آدم کے سامنے نہیں جھکوں گا، وہ الیں کا بھائی ہے۔ اس کے سجدہ کی خدا کے یہاں کوئی قیمت نہیں۔ اس نے آدم کے سامنے جھکنے سے انکار کر کے کبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور جو اپنے اندر کبھی نفیات

کی پر درش کرے اس کا کوئی عمل خدا کبھی قبول نہیں کرتا۔

پہلے انسان (آدم) کا قصد خدا کے سامنے، براہ راست پیش آیا تھا۔ اب دنیا کی زندگی میں ہر آن یہی قصد خدا کے غیب میں پیش آ رہا ہے۔ آج خدا ہمارے سامنے عیاً موجود نہیں ہے۔ آج جو چیز خدا کی جگہ پر ہے وہ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کا طریقہ ہے اور اسی کے ساتھ آدمی کا اپنا ضمیر ہے جو اندر سے اس کو آواز دیتا ہے۔

ہر روز جب کسی انسان سے ہمارا سابقہ پیش آتا ہے اور یہ تقاضا ہوتا ہے کہم اس کے حق کا اعتراف کریں، خواہ یہ تنفاصا الفظی اعتراف کا ہو یا کسی عمل کا، اس وقت گویا خاموش زبان میں خدا کا حکم ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ اس "آدم" کا جو حق تمہارے اوپر آتا ہے اس کو ادا کرو۔ بالفاظ دیگر، اس کے سامنے جھک جاؤ۔ اگرلفظی اعتراف کا معاملہ ہے تو لفظوں میں اس کی صداقت کا اعتراف کرو۔ اگر عملی حق کا معاملہ ہے تو عملی طور پر اس کا حق ادا کرو۔ ایسے موقع پر جو لوگ خدا کی خاموش آواز پر کان لگائیں اور فوراً اپنے آپ کو اس کی تعییں کے لئے پیش کر دیں، وہ امتحان میں سچے اترے۔ اور جو لوگ "میرا درجہ بڑا ہے" یعنی اس سے بہتر ہوں "بیس زیادہ طاقتوں ہوں" جیسی نسبیات میں متلا ہو جائیں اور اپنے "آدم" کے آگے جھکنے سے انکار کر دیں، وہ امتحان میں پورے نہیں اترے۔ پہلی قسم کے لوگوں کے لئے فرشتوں والا انجام ہے اور دوسری قسم کے لوگوں کے لئے ابلیس والا انجام۔

انسان سے اصلًا جو چیز مطلوب ہے وہ یہی ہے کہ وہ خدا کے سامنے سجدہ کرے۔ مگر کوئی شخص حقیقتہ خدا کا ساجد بنایا نہیں، اس کا امتحان اس کو "آدم" کے سامنے جھک کر دینا ہے۔ خدا کا ساجد اور عابد ہی ہے جو خدا کے حکم کو مان کر اپنے

حق دار انسان کے سامنے جھک جائے۔ جو شخص خدا کے سامنے سجدہ کرے اور حب انسان سے معاملہ پڑے تو اس کا حق نہ پہچانے اور گھمٹ ڈا رہے انصافی کا طریقہ اختیار کرے وہ خدا کا سا جد بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ جہاں اس کا خدا اس کے سا جد ہونے کا امتحان لے رہا تھا وہاں وہ اپنے کو ساجد ثابت نہ کر سکا۔

خدا کو سجدہ کرنے کے لئے آدمی آسانی سے تیار ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ خدا کے مقابلہ میں کسی کے اندر ”یہ اس سے بڑا ہوں“ کی نفیات نہیں ہوتی۔ جب کہ انسان کے مقابلہ میں طرح طرح کی نفیاتی گر ہیں پڑی ہوتی ہیں جو ایک انسان کے لئے دوسرے انسان کے اعتراض میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ خدا کسی انسان کا حریف نہیں۔ جب کہ ایک انسان بہت جلد دوسرے انسان کو اپنا حریف سمجھ لیتا ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں جھکنے کو اپنے لئے عزت کا سوال بنالیتا ہے۔ خدا کے مقابلہ میں آدمی کی نفیات احتیاج کی نفیات ہوتی ہے۔ خدا صرف دینے والا ہے۔ اس کو کسی سے یعنی کی ضرورت نہیں۔ مگر ان کا معاملہ مختلف ہے۔

یہاں جب ایک شخص دوسرے شخص کے سامنے جھکتا ہے تو وہ اس کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے۔ کبھی اچھے الفاظ، کبھی دوسرے کی حقانیت کا اعتراف، کبھی اس کا مالی یا مادی حق ادا کرنا، کبھی کسی کو افضل پاکر خود پیچے ہٹ جانا اور اس کو آگے بڑھانا، کبھی کسی کی کمزوری پر فتاوبو پایسے کے باوجود اس کی عزت کی خاطر در گزر کرنا۔ کبھی ایک شخص کی اتفاقی غلطی سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہوتے ہوئے انصاف کی خاطر چپ رہ جانا۔ کبھی سامنے کے ملتے ہوئے نفع کو چھوڑ کر صرف اصول کی خاطر بے نفع والے آدمی کا ساتھ دینا، غرض ہر بار جب کسی کے لئے دوسرے آدمی کے سامنے جھکنے کا سوال ہو تو یہ اس

کو کچھ دینے کا سوال ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو دوسرے آدمی کے مقابلہ میں حق و انصاف کا رویہ اختیار کرنے کے لئے اس کو اپنی نفیاتی گر، ہوں کو توڑنا پڑتا ہے۔ جب وہ کسی حریف کی عزت کرتا ہے تو یہ اپنی عزت کو خطرہ میں ڈالنے کی قیمت پر ہوتا ہے۔

یہ چیزِ اس خدا کے سجدہ کے مقابلہ میں "آدم" کے آگے جھکنے کو کسی انسان کے لئے بے حد مشکل بنادیتی ہیں۔ مگر انسان کا اصل امتحان جہاں ہو رہا ہے، وہ یہی مقام ہے۔ یہی وہ اصل فتنہ بانی ہے جو ہر ایک کو اپنے خدا کی رضا کے لئے دینی ہے۔ جو اس قرآنی کے لئے تیار نہ ہو وہ کبھی خدا کا محبوب بندہ نہیں بن سکتا۔ خواہ وہ بظاہر خدا کو سجدہ کرنے والا ہو یا سجدہ نہ کرنے والا۔

کسی شخص کو جو بڑائی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ اس سے یہی شخص کی بڑائی کا اعتراف دراصل خدا کی تقسیم کے برحق ہونے کا اعتراف ہے، اور اس کی بڑائی کا انکار خدا کی تقسیم کے برحق ہونے کا انکار ہے۔ اسی طرح جب ایک شخص کسی حق کی بنا پر دوسرے آدمی کے آگے جھکتا ہے تو وہ حقیقتہ "کسی آدمی کے آگے نہیں جھکتا بلکہ خدا کے آگے جھکتا ہے۔ کیوں کہ وہ خدا کے حکم کی تعییں میں اس کے آگے جھک رہا ہے نہ کہ خود اس آدمی کے ذاتی فضل کی بنا پر۔

سب سے بڑی حقیقت اللہ رب العالمین ہے۔ اس ذات کو پالیسا ہی آدمی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ موجودہ دنیا میں آدمی جہاں اپنے رب کو پاتا ہے وہ "سجدہ" ہے، مگر سجدہ اسی وقت حقیقی سجدہ نہ تاہے جب کہ سجدہ سے باہر کی دنیا میں آدمی توضیح اور جھکاؤ کی زندگی اختیار کر چکا ہو۔ ایسا شخص اپنی نفسی حالت کے اعتبار سے اس قابل

ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کی تجلیات کا آخذ (Recipient) بن سکے۔ اس کے لئے سجدہ حقيقة معنوں میں رب العالمین سے ملاقات کا مقام بن جاتا ہے۔ اس کے بر عکس جو شخص باہر کی زندگی میں خود پسند اور منکر بنا رہے، اس کی روح کے اندر شیطان اپنے گھونسلے بنایتا ہے۔ اس کا سجدہ غفلت اور بے کیفی کا سجدہ ہوتا ہے۔ اس کا کا سجدہ اس کو خدا سے قریب نہیں کرتا۔ اس کا سجدہ اس کو خدا سے نہیں ملاتا۔



اسلامی اخلاق



اسلامی اخلاق

اسلامی اخلاق کی حقیقت تواضع ہے۔ اسلامی اخلاق تواضع والے انسان کے کردار کا دوسرا نام ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے : وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَعْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَنَا وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا إِسْلَامًا (خدا کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں) یعنی جو لوگ خدا کے واقعی بندے بن جائیں وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو ان کا چلنا عجز کا چلنا ہوتا ہے۔ جو لوگ خدا کے مقابلے میں اپنی بڑائی کا حساس کھو دیں وہ انسانوں کے درمیان بھی بڑے بن کر نہیں رہتے۔ خدا کی نسبت سے جس کیفیت کو خشوع کہا جاتا ہے وہی کیفیت جب بندوں کی نسبت سے ظاہر ہو تو اسی کو متواضع اخلاق کہتے ہیں۔ اور متواضع اخلاق ہی کا دوسرا نام اسلامی اخلاق ہے۔

حضرت عیاض بن حمار کی ایک روایت صحیح مسلم میں ان الفاظ میں آئی ہے :

اَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضِعُوا اللَّهُ تَعَالَى نَهَى مَجْهُوِّلَيْهِ عَنِ الْمُكْبَرِ
حَتَّى لَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَفْخُرُ تَوَاضِعُ كَطْرِيقَةٍ اخْتِيَارَ كَرْوَ - يَهَا مِنْ تِكْرِيْكَرْ
أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ كَرْ كَوْنِيْشْ كَسِيْ دَوْسَرَ شَخْصٍ بَرْ
نَرْ يَا دَتِيْ نَرْ كَرْ - كَوْنِيْشْ كَسِيْ دَوْسَرَ شَخْصٍ بَرْ

شخص پر فرض کرے۔

خدا سے پانے کے لئے

اسلامی اخلاق کا نہایت گہر اتعلق خدا کی معرفت سے ہے۔ جب ایک شخص حقیقی معنوں میں خدا کو دریافت کرتا ہے تو اس پر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ اس دنیا میں وہ آزاد نہیں ہے کہ جو چاہے کرے۔ وہ یہاں حالت امتحان میں ہے۔

خدا نے اس کو مسدود مدت کے لئے یہاں رکھا ہے۔ اس کے بعد اس پر موت طاری کر کے وہ اس کو اپنے یہاں بلائے گا۔ اور اس کے عمل کے مطابق اس کو یاجنت کے باغوں میں بسانے گا یا جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔

جب آدمی پر زندگی کی یہ حقیقت کھلتی ہے تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ وہ موت کے بعد آنے والی زندگی میں اپنے آپ کو خدا کی پکڑ سے بچائے۔ وہ آخرت میں خدا کی رحمت اور معافی حاصل کر سکے۔ اس کا یہ مزاج اس کی زندگی میں اس طرح داخل ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لئے حد درجہ زرم اور مہربان بن جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے تاکہ خدا اس کو معاف کرے۔ وہ لوگوں کے ساتھ وسعتِ ظرف کا معاملہ کرتا ہے تاکہ خدا اس کے ساتھ وسعت اور رحمت کا معاملہ فرمائے۔

اس موناہ سلوك کو حدیث میں مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ہم اس سلسلہ میں چند حدیثیں نقل کرتے ہیں:

انما يرحم اللہ من عبادہ الرحمناء بے شک اللہ اپنے بندوں میں سے مہربان

بندوں پر مہربانی کرتا ہے۔ (السجاح الصغیر)

إسْمَهُوْ بِسْمِهِ تَكُونُ

(الجائع الصغير)

تم لوگوں سے درگز کرو، تہارے ساتھ
بھی درگز کیا جائے گا۔

أَرْحَمَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُ مَنْ

فِي السَّمَاءِ (الجائع الصغير)

تم زین والوں پر رحم کرو، آسمان والا

تہارے اور پر رحم کرے گا۔

مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ (متقن عليه)

جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا

حضرت ابو ہریرہ سے ایک لمبی حدیث مردی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں :

مَنْ نَفَسَ عَنْ مَوْمَنْ كُرْبَةَ مِنْ كُرْبَ

جو شخص ایک مومن کی دنیا کی مصیتوں میں

الْدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةَ مِنْ كُرْبَ

سے ایک مصیبت کو دور کرے گا تو اللہ اس

يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسْرَ عَلَى مُغْسِرٍ

يَسْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ - وَاللَّهُ فِي عَوْنَ الْعَبْدِ مَا

كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنَ الْخَيْهِ

(صحیح مسلم)

پردہ پوشی کرے گا۔ اور اللہ بندر کی مدد پر

رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد پر

رہے۔

عَنْ جَرَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَتَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرَ يَا كَ الْدُّنْيَا شَخْصٌ پُرْ رَحْمٌ

لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ (متقن عليه)

۱۰۰

نَكْرَے گا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔

اعلیٰ ظرفی

ایک شخص نے ٹیکسی کرایہ پر لی۔ جب وہ سفر پورا کر کے اترانے تو ٹیکسی والے نے پچاس روپیہ کرایہ بتایا۔ اب اگر مسافر کی جیب میں صرف پچاس روپے ہوں تو وہ ٹیکسی والے سے جھگڑا کرے گا۔ کیوں کہ وہ ڈرے گا کہ اس کو دے کر میں خالی ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد میرے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ وہ ٹیکسی والے سے کہے گا کہ تم نے کرایہ زیادہ بتایا ہے۔ مگر جس شخص کے بیگ میں پچاس ہزار روپیہ کے نوٹوں کے بنڈل بھرے ہوئے ہوں وہ کبھی پچاس روپیہ کے لئے جھگڑا نہیں کر سکتا۔ وہ فوراً ٹیکسی والے کو اس کا کرایہ ادا کر کے آگے بڑھ جائے گا۔

یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو شخص بڑی چیز پائے ہوئے ہو وہ کبھی چھوٹی چیز کے لئے جھگڑا نہیں کرتا۔ کم ظرفی چھوٹی یافت کا نتیجہ ہے اور عالیٰ ظرفی بڑی یافت کا نتیجہ ہے۔

خدا بلاشبہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ وہ تمام خوبیوں اور کمالات کا خزاد ہے۔ جو شخص خدا کو پاتا ہے وہ گویا سب سے بڑی چیز کو پاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل سب سے بڑا دل بن جاتا ہے۔ اس کے اندر کونے کو برداشت کرنے کی اختیاہ ملact پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر یہ مزاج آ جاتا ہے کہ وہ اپنی سطح سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کر سکے۔ اس کے اندر سے تنگ ظرفی کا مزاج ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں اس کو اعلیٰ ظرف پاتے ہیں۔ وہ کردار اور اخلاق کے اعتبار سے ایک اونچا انسان بن جاتا ہے۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں قرآن میں ارشاد ہوا ہے: إِنَّكَ

لَعْنَلِي حُلْقٌ عَظِيمٌ (الفتم)، يقينًا تم اعلى اخلاق پر ہو۔ اعلیٰ اخلاقی جوابی اخلاق نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ اصول کی بنیاد پر بنتا ہے۔ آدمی دوسروں کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے یہ دیکھ کر نہیں کرتا کہ دوسرا لوگ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں بلکہ یہ سوچ کر کرتا ہے کہ بےاعتبار اصول اس کارویہ کیا ہوا ناچا ہئے اور کیا نہیں ہوا ناچا ہئے۔ لوگوں کے درمیان اس کا سلوک لوگوں کی روشن کے تابع نہیں ہوتا بلکہ خود اپنے معیار اخلاق کے تابع ہوتا ہے۔

یہی بات ہے جو حدیث میں ان الفاظ میں آئی ہے :

عن حَدِيفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَضْرَتُ حَدِيفَةَ رَضِيَّتِهِ عَنْهُ مِنْ كَرِيرٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُونُوا أَمْمَةً تَقُولُونَ إِنَّ احْسَنَ النَّاسِ اَحْسَنَا وَإِنْ يَهْنِ لَكُوْكَهُ اَكْلُوكَهُ اَجْهَاسُوكَهُ كَرِيرُوكَهُ اَظْلَمُوكَهُ اَظْلَمُنَا وَلَكُنْ وَطِنُوكَهُ اَفْسُوكَهُ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَنْ تُخْسِنُوا وَإِنْ بَرَتَادُوكَهُ اَكْلُوكَهُ بَرَ اَبْرَتَادُوكَهُ اَسَاؤُ اَفَلَا تَظْلِمُوا (مشکوٰۃ، باب الظلم) صفحہ ۱۲۱۸

هم بھی اچھا سلوک کریں گے۔ اور اگر لوگ برا اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی برا بر تاد کریں گے۔ بلکہ تم اپنے آپ کو تیار کرو کہ اگر لوگ تو تم خود ان کے ساتھ ظلم نہ کرو۔

اس بات کو ایک اور حدیث میں اس طرح بتایا گیا ہے:

عن عقبة بن عامر قال قال رسول حضرت عقبہ رضی ہئے یہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ، الْأَخْيْرُكَی اَلَّا اَخْيْرُکَی اَلَّا اَخْيْرُکَی کیا میں تم کو دنیا اور بافضل اخلاق اهل الدنیا والآخرۃ اُخْرَتْ کے لوگوں کا بہترین اخلاق نہ باوں۔ ۱۰۲

قال نعم۔ قال تصل من قطعك و
کہا کہ ہاں۔ فرمایا کہ جو تم سے کئے تم اس سے
تعطی من حرمک و تعفو عنّ من
بڑو۔ جو تم کو محروم کرے تم اسے دو۔ اور جو
شخص تم پر نظم کرے اس کو تم معاف کر دو۔
ظلمک (البیقی)

اسی لئے مذکورہ آیت (إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ) کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ اس
سے مراد خدا کے اُس حکم پر قائم ہونا ہے جو دوسرے مقام پر ان الفاظ میں آیا ہے:
عفو و درگذر کا طریقہ اختیار کرو اور معروف کی تلقین کرو اور جاہلوں سے اعراض
کرو و قتیل ہو ماما امرہ اللہ تعالیٰ بھے فی قولہ: خذ العفو و امسر

بالعرف و اعرض عن الجاہلین، تفسیر نفی جلد ۳، صفحہ ۲۷۹)

یعنی جہاں لوگ دوسروں سے بدلتے ہیں وہاں تم دوسروں کو معاف کر دو۔
جہاں لوگ دوسروں کے درمیان برائی پھیلاتے ہیں وہاں تم نیکی پھیلاو۔ جہاں
لوگ دوسروں سے الجھ جاتے ہیں وہاں تم نظر انداز کر کے گزر جاؤ۔

اخلاق کی دو قسمیں

اسلامی نقطہ نظر سے اخلاق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک پست اخلاق۔ دوسرے، اعلیٰ
اخلاق۔ پست اخلاق کا کوئی مستقل اصول نہیں ہوتا جس کا ہمیشہ لحاظ کیا جائے۔ وہ
حالات کے لحاظ سے بتتا ہے۔ اسی لئے وہ کبھی کچھ ہوتا ہے اور کبھی کچھ۔ جس موقع پر جس
قسم کے جذبات آدمی کے اندر ابھرے وہی اخلاق اور کردار کی صورت میں ڈھل
گئے۔

کسی کو اپنے سے کم دیکھا تو اس کو حقیر سمجھ لیا اور کسی کو اپنے سے زیادہ پایا تو
اس کے خلاف حسد کرنے لگے۔ کسی سے فائدہ نظر آیا تو اس کے دوست بن گئے اور
۱۰۳

کسی کو دیکھا کہ اس سے اپنا کوئی فائدہ وابستہ نہیں ہے تو اس سے بے رخ اختیار کر لی کسی نے اچھا سلوک کیا تو اس کے لئے اچھے بن گئے۔ اور کسی نے بر اسلوک کیا تو اس کے ساتھ برائی کرنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے کوئی بڑی حیثیت حاصل ہو گئی تو گھنٹہ میں مبتلا ہو گئے اور اگر کوئی بڑی حیثیت نہیں ملی تو مایوس کا شکار ہو گئے۔ کسی سے خوش ہو گئے تو اس کے ساتھ فیاضی کرنے لگے اور اگر کسی سے ناخوش ہوئے تو اس کے لئے اپنے دروازے بند کر لے۔ کسی کو اپنے موافق پایا تو اس کی تعریف کرنے لگے۔ اور اگر کسی سے نام موافق ت ہو گئی تو سمجھ لیا کہ اس سے زیادہ برائی کی آدمی نہیں۔

یہ سب پست اخلاق کے طریقے ہیں۔ اور مومن کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ پست طریقے سے بچے اور اعلیٰ اخلاقی طریقے اختیار کرے۔

اخلاق کی بلندی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اعلیٰ اخلاق پر فتاوم تھے۔ اور آپ کا یہی مشنحت کر لوگوں کو اعلیٰ اخلاق اختیار کرنے کی تلقین کریں۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے ارشاد فرمایا:

| | |
|--|---|
| عن مالکِ انه بَلَغَهُ ان رسولَ اللَّهِ | حضرت امام مالکؓ کہتے ہیں کہ انھیں یہ بات |
| صلی اللَّهُ علیْهِ وسَلَمَ قال : بعثتُ | پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے |
| لَا تَنْهِي حَسَنَ الْأَخْلَاقِ | فرمایا کہ میں اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ حُسن |
| أَخْلَاقَ كَمْكِيلَ كَرَوْلَ | (موطا امام مالک) |

یہ روایت مختلف طریقوں سے آئی ہے۔ کسی میں حسن الاخلاق کا الفاظ ہے، کسی میں صاحب الاخلاق کا اور کسی میں مکارم الاخلاق کا۔ وہ مکارم اخلاق کیا ہیں جن

کی دعوت اور اقامت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے گئے۔ اس کی وضاحت دوسری روایت سے ہوتی ہے :

ثَلَاثَةٌ مِنْ مَكَارِمِ الْخُلُقِ عِنْدَ اللَّهِ
تین چیزیں اللہ کے نزدیک اعلیٰ اخلاق
أَنْ تَعْفُوْعَنَ ظَلَمَكَ وَ تُعْطِيْ مَنْ حَرَمَكَ
سے ہیں۔ یہ کہ جو شخص تم پر ظلم کرتے تو اس کو
وَ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ
معاف کر دو۔ اور جو شخص تم کو محروم کرتے تو
اس کو دو۔ اور جو شخص تم سے کٹا تو اس سے
جزٹو۔

(ابجام الصغیر، السیوطی)

گویا اعلیٰ اخلاق وہ ہے جس میں آدمی فرینق ثانی کی روشنی سے بلند ہو کر اس سے معاملہ کرے۔ وہ فرینق ثانی کے رویہ سے متاثر ہوئے بغیر اس سے اچھی طرح پیش آئے۔ اس کا اخلاقی ثابت اخلاق ہونے کے جوابی اخلاق۔

قابل اعتماد اخلاق

ایک انجینئر جب لو ہے کا پل بناتا ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ لو ہا اس بوجھ کو بھر پور طور پر سنبھالے گا جس کو سنبھالنے کے لئے پل بنایا گیا ہے۔ انجینئر کو اگر لو ہے کی اس خصوصیت پر یقین نہ ہو تو وہ کبھی لو ہے کا پل بنانے کی ہمت نہ کرے۔ اسی طرح تمام مادی چیزوں میں کچھ متعین خواص (Properties) ہیں۔ یہ خواص اتنے یقینی ہیں کہ نہایت صحت کے ساتھ ان کی پیشین گوئی کی جا سکتی ہے۔ مادے کے خواص کی اسی قطعیت کی بنا پر تمدن کا سارا نظام چل رہا ہے۔ اگر مادی چیزیں اپنے خواص کو کھو دیں تو انسانی تمدن کا سارا نظام در ہم بر ہم ہو جائے گا۔

مادہ کے لئے خواص کی جو اہمیت ہے وہی اہمیت انسانی زندگی کے لئے اخلاق

کی ہے۔ اخلاق کی مضبوطی ہی وہ واحد چیز ہے جس پر سماجی زندگی کا نظام کھدا ہوتا ہے۔ اگر لوگوں کے اندر اخلاقی مضبوطی باقی نہ رہے تو کبھی انسانی زندگی کی طووس تیر مکن نہ ہو۔

بہتر سماجی زندگی کے لئے ضروری ہے کہ اس کے افراد قابل پیشین گوئی کردار کے حامل ہوں۔ ایک شخص سے معاملہ کرتے ہوئے یہ یقین کیا جاسکے کہ وہ جو کہے گا اس کو وہ ضرور پورا کرے گا۔ ایک شخص کے سامنے ایک ثابت شدہ حق کو پیش کیا جائے تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم پیشگی طور پر یہ یقین کر سکیں کہ وہ اس کو ضرور رقبوں کرے گا۔ ایک شخص سے شکایت اور اختلاف ہو جائے تو یہ فضاحتی چاہیے کہ ہم یہ یقینی اندازہ کر سکیں کہ وہ انصاف سے ہٹ کر کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ ایسے سماج کا انسان گویا لوہا انسان (لوہ پرش) ہے۔ وہ حدیدی کردار کا حامل ہے۔ اس سے ازوئے حق جو امید کی جاتی ہے وہ اس میں پورا اترتا ہے۔ جس سماج کے افراد ایسے ہوں اس سماج کی ترقی کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔

جس سماج کی حالت اس کے خلاف ہو جائے وہ ایک برباد سماج ہے۔

جہاں افراد کا حال یہ ہو کہ وہ اپنے وعدوں پر پورے نہ اتریں۔ ان کے سامنے حق آئے مگر وہ اس کو قبول نہ کریں۔ ان کو کسی سے شکایت ہو جائے تو وہ اس کے خلاف ہر کارروائی کرنے کے لئے تیار ہو جائیں، خواہ وہ کتنی ہی زیادہ انصاف اور انسانیت کے خلاف کیوں نہ ہو۔ جس سماج کی اخلاقی حالت ایسی ہو جائے وہ اس دنیا کی مانند ہے جہاں لوہے نے اپنا لوہا پن کھود دیا، جہاں پتھر پتھر نہ رہا، بلکہ وہ دیکھ زدہ لکڑی کی طرح بے جان ہو گیا۔

قدرت کے باوجود

سب سے زیادہ سخت امتحان آدمی کا اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ اپنے مخالف پر فتابو پا جائے۔ جب اس کا دشمن پوری طرح اس کی گرفت میں آچکا ہو۔ ایسے موقع پر آدمی اپنی ساری طاقت استعمال کر کے اپنے مخالف کو پیس ڈالتا ہے۔ ایسے دشمن کے معاملہ میں آدمی اپنی کوئی اخلاقی ذمہ داری نہیں سمجھتا جو پوری طرح اس کے قبضہ میں آچکا ہو۔

مگر اللہ سے ڈرنے والے انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس وقت بھی خدا اس کے سامنے اگر کھڑا ہو جاتا ہے۔ خدا کی طاقت کا احساس اس کے ذہن پر اس طرح چھا جاتا ہے کہ انسان کی کمزوری اسے بھول جاتی ہے۔ وہ اپنے دشمن کو معاف کر دیتا ہے۔ کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ یہی وہ موقع ہے جب کہ وہ اپنے دشمن کو معاف کر کے اپنے آپ کو عبدیت کے بلند ترین مرتبہ پر پہنچا سکتا ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَسْنَتِ الْأَعْمَالِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوسَى بْنُ عَمَّارٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ
عَمَّرَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمِعَ كَمْ مَا يَقُولُ
عِبَادَاتِي عِنْدَكَ - قَالَ مَنْ إِذَا قَدَرَ
سَبَّ زِيَادَةً مِنْ زَبْدِهِ كُونَ هُوَ
غَفَرَ (ابیہیق)

وہ شخص جو قدرت پانے کے بعد معاف کر دے۔

غضہ نہیں

جو چیز اخلاق کی سب سے بڑی تاثر ہے وہ غصہ ہے۔ عام حالات میں اکثر لوگ

یحی رہتے ہیں۔ مگر جب ایک آدمی کو کسی بات پر غصہ آجائے تو اس کے بعد وہ فتاوی سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ بھول جاتا ہے کہ کوئی اخلاقی اصول ہے جس کو اسے ہر حال میں برداشت کا چاہئے۔

اس دنیا میں صرف ایک ہی چیز ہے جو غصہ اور اشتعال کی حالت میں آدمی کو خدا کے اندر رکھ سکتی ہے، اور وہ خدا کا خوف ہے۔ اگر آدمی کے دل میں واقعہ خدا کی عظمت بیٹھ جائے اور وہ جان لے کہ خدا اس سے اس کے تمام اعمال کا حساب لے گا تو یہ احساس اس کے اوپر ایک قسم کی لگام لگادیتا ہے۔ خدا کا ڈر اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک حد سے آگے نہ جانے دے۔ اسی لئے قرآن میں خدا کے مومنین کی صفت یہ بتائی گئی ہے:

وَإِذَا مَا نَخْضِبُوا هُمْ يَغْنِرُونَ (الشوریٰ) جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں خدا سے ڈرنے والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ انہیں جب انسانوں کی طرف سے غصہ آتا ہے تو خدا کا تصور سامنے آگر ان کے غصہ کو دبادیتا ہے۔ وہ انسان کے رویہ سے مشتعل ہوتے ہیں، مگر خدا کی پکڑ کا اندریشہ انہیں ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ غصہ کے سلسلے میں چند حد شیئیں یہ ہیں:

| | |
|--------------------------------|--|
| عن ابی هریرۃ ان رجلا قال للنبی | حضرت ابو ہریرہ رضیتے ہیں کہ ایک شخص نے |
| صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے نصیحت لاتفضل۔ فرد ذالک مراراً قاتل |
| لاتفاق | کیجئے آپ نے فرمایا غصہ نہ کر۔ آدمی نے بار بار |
| لاتفاق (صحیح بخاری) | پوچھا۔ آپ نے ہر بار فرمایا کہ غصہ نہ کر۔ |

| | |
|-------------------------------|--|
| عن ابی هریرۃ قال رسول اللہ | حضرت ابو ہریرہ رضیتے ہیں کہ رسول اللہ |
| صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید | صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں |

بالصریحۃ امَا الشَّدِیدُ مِنْ يَمْلأُ نَفْسَهُ
 ہے جو حریف کو بچاڑ دے۔ پہلوان وہ ہے
 عَنْدَ الْغَضْبِ (صیحہ مسلم)
 جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہئے
 اذَا غَضِبَ احْدَكُمْ فَلِيَسْكُتْ
 کرو وہ چپ ہو جائے۔
 (احب این الصیر)

غصہ در اصل رد عمل کا دوسرا نام ہے۔ ان آیتوں اور حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے
 کہ مومن کا طریقہ رد عمل کا طریقہ نہیں ہوتا۔ مومن کو کسی کے خلاف غصہ آتا ہے تو اس کے
 جواب میں وہ اس کو معافی لوٹاتا ہے۔ وہ منفی نقیات سے اور پراٹھ کر لوگوں سے معاملہ
 کرتا ہے۔ وہ غصہ اور تلمیز کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ اندر ہی اندر اس کو پی جاتا ہے۔ یومن
 اس دنیا میں پھول کی طرح رہتا ہے۔ اس کو برآ کہیں تب بھی وہ برآ کہنے والے کو خوبیو
 دے گا۔ اس کو پتھر ایسیں تب بھی اس کا سکون بھٹک نہیں ہو گا۔

غلطی ہو جانے کے بعد

انسان خواہ کتنا ہی اچھا ہو، دوسروں کے درمیان رہتے ہوئے بار بار اس
 سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ بار بار لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہی ہو جاتی
 ہے۔ ایسے موقع کے لئے یہ اخلاق بستا یا گیا ہے کہ جب کوئی برائی ہو جائے تو فوراً
 بحدالی کرو۔ اس سے تمہاری برائی کا اثر دصل کرختم ہو جائے گا۔ چنانچہ حدیث
 میں ارشاد ہوا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَحِدُّ شَمَائِلَنَّتَ وَأَنْتَ بِعَنِيَّةَ
 تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور
 الْحَسَنَةَ تَمْحُمُهَا وَخَالِقُ النَّاسِ يُخْلُقُ
 وہ اس کو مٹا دے گی۔ اور لوگوں کے درمیان
 حَسَنٍ (احب این الصیر)


اچھے اخلاق کے ساتھ رہو۔

برائی کے بعد اچھائی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلاً جس کے ساتھ برائی ہوئی ہے اس سے معافی مانگنا۔ اس کے حق میں خدا سے اچھی دعائیں کرنا۔ اس کو ہدیہ دینا۔ اس کا ذکر لوگوں کے درمیان اچھے الفاظ سے کرنا۔ مختلف موقع پر اس کی خیر خواہی کرنا، وغیرہ۔


جنت والے

قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں کوئی لغو بات یا گناہ کی بات نہ سنائی دے گی (واکہ ۲۶) معلوم ہوا کہ جنت کا ماحول اعلیٰ اخلاق کا ماحول ہو گا۔ وہاں جھوٹ، تہمت، غیبت، بے ہودگی، گالی، طنز و تمسخر اور فضول باتیں نہیں ہوں گی۔ وہاں ہر ایک کے دل میں دوسرے کے لئے سلامتی اور خیر خواہی کے جذبات ہوں گے۔ وہاں ہر ایک وہی بولے گا جو اسے بولنا چاہئے اور وہ نہیں بولے گا جو اسے نہیں بولنا چاہئے۔ جنت بد اخلاق لوگوں کی سوائشی نہ ہو گی۔ جنت شریف ان انوں کا معاشرہ ہو گا۔

دنیا میں اچھے اخلاق وala بنتا دراصل اسی جنتی سماج کا امیدوار بنتا ہے۔ جو شخص دنیا میں جنتی اخلاق کا ثبوت دے دی، ہی آئندہ جنت کے ماحول میں بیایا جائے گا۔ باقی تمام لوگ رد کر کے جہنم کے کوڑا خانہ میں ڈال دئے جائیں گے تاکہ ہمیشہ کے لئے اپنی بد کرداری کی سزا بھگتے رہیں۔



اسلامی معاشرو



اسلامی معاشرہ

سمراج کیا ہے۔ بہت سے آدمیوں کامل جل کر رہنا۔ جب بہت سے آدمی ملے ایک ساتھ رہیں تو ان کے درمیان طرح طرح کے تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کا پڑوسی۔ کوئی کسی کا، ہم قوم ہوتا ہے کوئی کسی کا، ہم وطن۔ کوئی تاجر ہوتا ہے اور کوئی گاہک۔ کوئی مالک مکان ہوتا ہے اور کوئی کرایہ دار۔ اس طرح کے مختلف تعلقات کی بنا پر لوگوں کے درمیان بار بار معاملات پیش آتے ہیں۔ ان معاملات کے دوران کبھی کسی سے نفرت کے اسباب پیدا ہوتے ہیں اور کسی سے محبت کے کسی سے کچھ لینا ہوتا ہے اور کسی کو کچھ دینا۔ کسی سے اختلاف ہوتا ہے اور کسی سے اتفاق۔ کوئی اپنابن جاتا ہے اور کوئی غیر دکھائی دیتا ہے۔ یہی چے ہے جو لوگوں کے درمیان سماجی تعلقات پیدا کرتی ہے۔ اور یہ سوال ساختے آتا کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے۔ بہت سے پھر ایک ساتھ پڑے ہوں تو ان میں باہمی تعلقات قائم نہیں ہوتے، اس لئے ان کے درمیان مذکورہ قسم کے مسائل بھی پیدا نہیں ہوتے۔ مگر جب بہت سے انسان ایک ساتھ مل کر رہیں تو انہیں باہمی تعلقات قائم ہوتے ہیں اور اس بنا پر ان کے درمیان طرح طرح کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔

قرآن کی سورہ الحجرات میں بتایا گیا ہے کہ ایمان والے لوگ آپس میں کس طرح رہیں۔ بتایا گیا ہے کہ وہ بھائیوں کی طرح مل جل کر رہیں۔ اگر کسی وجہ سے دواؤ ہوں میں کوئی بھگڑا پیدا ہو جائے تو تمام لوگ اس کی اصلاح کے لئے دوڑ پڑیں، ویسے ہی جیسے کوئی اپنے نگہریں آگ لگتی ہوئی دیکھتا ہے تو اس کو بھانے کے لئے دوڑ پڑتا ہے۔ اسی کے ساتھ ان تمام برائیوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے جو آپس کے تعلقات کو بگاڑنے والی ہیں۔ کسی شخص میں کوئی کمی دکھانی دے تو لوگ اس کی ہنسی نہ اڑائیں۔ عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس لئے آدمی کو ڈرنا چاہئے کہ کیا مسلم دوسرا شخص خدا کے نزدیک مجھ سے بہتر تردار پائے۔ کوئی کسی کا کچھ کام بنادے تو وہ اس کو طعنہ نہ دے، بلکہ یہ سمجھے کہ خدا نے ایک شخص کو مدد پہنچانے کے لئے اس کو پانی ذریعہ بنایا۔ کسی کو بدنام کرنے کے لئے اس کا نام نہ بگاڑ جائے۔ ناکافی معلومات کے ساتھ کسی کے بارہ میں بدگانی ہو جائے تو تحقیق کے بغیر اس کو نہ مانے۔ کوئی کسی کا بھید جانتے کی کوشش نہ کرے۔ جس طرح آدمی اپنے بھید کو چھپانا پسند کرتا ہے اسی طرح اس کو پسند کرنا چاہئے کہ دوسرے کا بھید بھی چھپا رہے۔ کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیر موجود آدمی کا برائی کے ساتھ مذکورہ کرنا اس پر ایسی حالت میں حملہ کرنا ہے جب کہ وہ اپنے دفاع کے لئے موجود نہیں۔

ان تمام سماجی برائیوں سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ خدا کا خوف ہے۔ آدمی کے اندر اگر خدا کا خوف اور آخرت کا اندریثیہ پیدا ہو جائے تو اس کے اندر تمام ضروری اوصاف پیدا ہو جائیں گے۔ یہ احساس آدمی کی زندگی میں ایک قسم کا چوکریدار بن کر شامل ہو جاتا ہے۔ وہ ہر اس موقع پر آدمی کو روک دیتا ہے جب کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ بے الفاظی کرنے جا رہا ہو۔

اجتماعی زندگی کے لئے اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ مسلمان جب ایک سماج کی صورت میر
مل کر رہیں تو وہ آپس میں کس طرح رہیں اور معاملات میں ایک دوسرے کے سا
کس قسم کا سلوک کریں۔ اس کی مزید وضاحت کے لئے چند حدیثیں ملاحظہ فرمائیں:

عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال : لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ حَتَّى
تَكُونَ لَهُ حَالٌ نَّهَىٰهُ عَنْ حُبِّ النَّفْسِ ۝ (متفق علیہ)
جہانی کے لئے وہی پسند کرے جو وہ خود اپنے لئے
پسند کرتا ہے۔

عن ابی هریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : كُلُّ مُسْلِمٍ
عَلَى الْمُسْلِمِ حِرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ
(مسلم)

عن عبد اللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ علیہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال:
مسلم وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے
دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔
الْمُسْلِمُ مِنْ سَلْمٍ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانٍ
وَيَدٍ ۝ (متفق علیہ)

عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال قال
مسلمانوں کی مثال آپس کی محبت اور آپس کی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : مثُل رجم دل اور آپس کی مہربانی کے معاملہ میں ایسی
المؤمنين في تواضعهم و تراحمهم ہے جیسے ایک جسم۔ جب جسم کے کسی عضو کو
و تغافلهم مثل الجسد اذا اشتكتی سمجھیں ہوتی ہے تو سارا جسم مل کر جا گا اپنے اور

سارا جسم بنا ریں بتلا ہو جاتا ہے۔

منه عضوت داعی لہ سائر الجسد

بالسَّمْر وَ الْجَمَعِ (متفق عليه)

ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ نہ
عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: المسلم اخو
ال المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان
في حاجة أخيه كان الله في حاجته
ومن فرج عن مسلم كربلة فرج الله
عنه بها كربلة من كروب يوم القيمة
ومن ستر مسلمًا استر الله يوم القيمة
شخص کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے گا تو الله
تیامت کے دن اس کی تکلیف دور کرے گا۔ جو
شخص کسی مسلمان کو ڈھانکے گا تو اللہ قیامت کے
دن اس کو ڈھانکے گا۔

الله نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم لوگ تو انش
عن عیاض بن حمار رضي الله عنه قال
اختیار کرو۔ کوئی شخص کسی کے اوپر زیادتی نہ
قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم :
کرے۔ کوئی شخص کسی کے اوپر فخر نہ کرے۔
ان الله تعالى أوحى إلى ان تواضعوا
حتى لا يبغى احد على احد ولا يغتر

احد على احد (مسلم)

عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال
ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے لئے
رسول الله صلی الله علیہ وسلم: المؤمن
ایسی ہے جیسے عمارت۔ عمارت کی ایک اینٹ
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا دوسری اینٹ کو ضبوط کرتی ہے اسی طرح
وشبك بين اصابعه (متفق عليه) سب مسلمان باہم جڑتے ہوئے ہوتے ہیں۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں اسلامی سماج کی جو تصویر
 بنتی ہے وہ یہ ہے کہ مومن دوسرے لوگوں کے درمیان اس طرح رہتا ہے کہ وہ ان
 کو غیر نہیں سمجھتا بلکہ اپنا ہی ایک حصہ سمجھتا ہے۔ دوسروں کے کسی روایے سے جب
 اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ دوسرے کسی بات سے خوش ہوں
 گے۔ اس لئے وہ خود بھی دوسروں کے ساتھ دیا ہی سلوک کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح
 جب کسی کا ایک روایہ اس کے لئے تکلیف کا باعث ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا
 ہے کہ دوسرے کسی چیز سے تکلیف محسوس کریں گے اور وہ اس کا سخت اعتمام کرتا
 ہے کہ دوسروں کو اس کی ذات سے اس قسم کے سلوک کا تجربہ نہ ہونے پائے جائے۔
 ایک مسلم آبادی ایک واحد جسم کی مانند ہو جاتی ہے۔ جسم کے ایک حصہ میں تکلیف ہو
 تو ناممکن ہے کہ بقیہ جسم اس کے لئے ترک ہے۔ اس طرح ایک مسلمان کی تکلیف
 سارے مسلمانوں کی تکلیف بن جاتی ہے۔ اور لوگوں کو اس وقت تک چین نہیں آتا
 جب تک وہ اپنے بھائی کی تکلیف دور نہ کر دیں۔

اسلامی سماج ایک ایسا سماج ہے کہ جب بھی ایک شخص کا دوسرے سے واسطے
 پڑتا ہے تو وہ اس کے اندر محبت اور رحم دلی اور مہربانی پاتا ہے۔ ہر ایک دوسرے
 کی حاجت برآری کے لئے اس طرح تیار رہتا ہے جیسے کہ وہ اس کا اپنا اصلہ ہو۔
 کوئی دوسرے شخص کو نیکا بیابے گھردیکھتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے جیسے وہ خود
 ننگا اور بے گھر ہو گیا ہو کسی کو برداشت نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے بھائی کو بے سہارا
 چھوڑ دے۔ ایک کو دوسرے سے ظلم اور گھنٹے کے بیانے تواضع اور انصاف ملت
 ہے۔ کوئی کسی کے اوپر فخر نہیں کرتا، کوئی کسی کے اوپر حسد نہیں کرتا۔ بلکہ ہر ایک

دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ ہر ایک دوسرے کا ساتھی بن جاتا ہے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح رہتے ہیں کہ ان کے لئے ناقابل تصور ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے خون کو اپنے لئے جائز کر لیں خواہ اس سے کتنی، ہی زیادہ تکلیف ان کو پہنچی ہو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال لے لینے سے اس طرح بچتا ہے جیسے کوئی شخص اگ کو ہاتھ میں لینے سے بچتا ہے۔ ایک مسلمان کے لئے دوسرے مسلمان کی آبرو پر حملہ کرنا اسی طرح ناممکن ہو جاتا ہے جیسے اپنے آپ کو برسہ بازار نہ گا کرنا۔

اسلامی سماج میں اس قسم کی فضیلات درتی نیتجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک حد درجہ تحدی سماج بن جاتا ہے۔ جس سماج میں ہر ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرے۔ ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو اس سماج میں اتحاد کے سوا اور کیا چیز جگہ پائے گی۔ ایک مسلم آبادی اپنے تمام افراد کے ساتھ گویا ایک بہت بڑی عمارت ہوتی ہے۔ اس کا ہر فرد اس عظیم عمارت کی ایک اینٹ ہوتا ہے۔ ہر اینٹ دوسری اینٹ سے جڑی ہوتی ہے۔ ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کر رہی ہوتی ہے۔ ایک اینٹ اور دوسری اینٹ کے درمیان جو سلطنت ہوتا ہے وہ دوری اور ٹکراؤ کا نہیں ہوتا بلکہ جوڑ اور پیوستگی کا ہوتا ہے۔ ہر اینٹ اگرچہ ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے گرالگ ہونے کے باوجود وہ سماجی اعتبار سے پوری عمارت کا ایک اٹوٹ حصہ ہوتی ہے۔ اس سے عمارت کو طاقت ملتی ہے نہ کمزوری۔ وہ اپنے اپر عمارت کو تحفے ہوتی ہے۔ نہ کہ خود عمارت کو اپنے اپر کھڑا کرنے کی کوشش کرے۔

ایک مومن جس خدا کا طالب ہوتا ہے دوسرا مومن بھی اسی خدا کا طالب ہوتا ہے

ایک مومن کی منزل مقصود جس طرح آخرت ہوتی ہے، دوسرے مومن کی منزل مقصود بھی اسی طرح آخرت ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں کیوں کر ممکن ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ملکر ایں۔ مزید یہ کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا بھلائی اور برائی کی کش کمش کی جگہ ہے۔ یہاں شیطان کے ساتھی اپنے عمل کے لئے آزاد ہیں۔ جو شخص بھی بھلائی کے راستے پر چلا چاہے اس کو برائی کی طاقتون کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنا راستہ بنا نا ہو گا۔ اس لئے ضروری ہے کہ سب مسلمان مل کر رہیں۔ باہم ملنے سے ان کی طاقت بہت بڑھ جائے گی۔ اور وہ زیادہ کامیابی کے ساتھ برائی کی طاقتون کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف بڑھ سکیں گے۔

اس قسم کا اسلامی سماج کس طرح بنتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ خوف خدا کے ذریعہ۔ دنیا کی تمام بھلائیوں کا راز یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے۔ اور دنیا کی تمام براہیوں کی جگہ یہ ہے کہ آدمی کا سینہ اللہ کے ڈر سے خالی ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی شخص دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتا ہے جو دوسروں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتا ہو۔ حضرت عمر تابعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اصحاب سے میں ملا ان کوئی نے یہ کہتے ہوئے پایا کہ لوگوں میں تمہارا سب سے زیادہ خیر خواہ وہ ہے جو تمہارے معاملہ میں اللہ سے ڈرتا ہو (انصہ الناس لک من خاف اللہ فیک، جامع العلوم والحكم ۱۷)

یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کی پکڑ کے اندریشے کے سوا کوئی چیز آدمی کو روکنے والی نہیں بن سکتی۔ جب آدمی پر ایک جیوانی جذبہ غالب آتا ہے، جب کسی معاملہ میں اس کا کوئی مفاد وابستہ ہو جاتا ہے، جب کوئی چیز اس کے لئے عزت و وفت کا مسئلہ بن

جاتی ہے تو اس وقت انسان وہ سب کچھ کر ڈالنا چاہتا ہے جو اس کے بس میں ہے۔ ایسے موقع پر صرف ایک ہی چیز ہے جو آدمی کو قابو میں رکھے اور اس کو انصاف کے راستہ سے ہٹنے نہ دے۔ اور وہ یہ احساس کہ ہر آدمی کا معاملہ اللہ کی یہاں پیش ہونا ہے اور ہر ایک کو اس کے کئے کا پورا پورا ملنا ضروری ہے۔ دنیا میں اگر کوئی شخص اپنے کو بچا بھی لے تو آخرت میں وہ اپنے آپ کو خدا کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔

مسلمانوں کا سماج خیرخواصی اور انصاف کا سماج ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ان میں سے ہر شخص اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کامع ملجب دوسرے مسلمان سے پیش آتا ہے تو اس کو وہ محض ایک انسانی معاملہ نہیں سمجھتا بلکہ ایک خدامی معاملہ سمجھتا ہے۔ اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں ایک انسان سے نہیں بلکہ خدا سے معاملہ کر رہا ہوں جو تمام طاقتتوں کا مالک ہے۔ ہر آدمی کے پیچے اس کو خدا کا ہر ٹکڑا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر عالم اس کو ایک ایسا عالم دکھانی دیتا ہے جو آخرت کی عدالت میں پیش ہو گا۔ اور تمام کھلے اور چھپے کا جاننے والا مالک اس کے بارہ میں بے لگ فیصلہ فرمائے گا۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو لازمًاً مرتبا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے یہاں حساب کتاب کے لئے حاضر ہونا ہے۔ وہ اللہ سے اس بات کی دعا میں کر رہا ہے کہ آخرت کی پیشی کے دن وہ اس کے ساتھ زمی کا معاملہ فرمائے۔

اس کی یہ نفیات اس کو دوسرے انسانوں کے عالم میں نہم کر دیتی ہے۔ وہ اپنے ساتھ دوسروں کی زیادتیوں کو معاف کر دیتا ہے تاکہ اس کا خدا اقیامت کے دن اس کی زیادتیوں کو معاف کر دے۔ وہ خدا کے بندوں کے ساتھ فیاضی کا معاملہ کرتا ہے تاکہ خدا بھی اس کے ساتھ فیاضی کا معاملہ کرے۔ بندوں کی طرف سے اس کو

جنہا ملتا ہے اس سے زیادہ وہ ان کو لوٹاتا ہے تاکہ خدا اس کے حقیر علی کے بدے
اپنے بڑے بڑے انعامات اس کے حصہ میں لکھ دے۔

اسلامی سماج میں آدمی اپنے حقوق سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھتا ہے
اور اختلاف و شکایت کے موقع پر خود اپنے کو قصور دار مان لیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ایک شخص کا قرض تھا۔ وہ
آیا اور آپ سے بہت بحدے انداز میں تقاضا کرنے لگا۔ آپ کے اصحاب جو اس
وقت آپ کے ساتھ تھے، اس کی سخت باتوں کو سن کر بیگڑ گئے اور اس کو مارنا چاہا۔
آپ نے منع فرمایا۔ آپ نے اس کے قصور کو اپنے آپ پر لیتے ہوئے فرمایا: اس کو چھوڑ
دو۔ کیوں کہ ایک حق دار کو ہونے سننے کا حق ہے (دعوه فان لصاحب الحق مقاله
متفق علیہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات سے نوونہ قائم کر کے حق دار کو
ہونے سننے کا موقع دیا اور اس طرح ہر قسم کے بسا جی فنادکی جڑ کاٹ دی۔

اسلامی سماج میں یہ مزاج ہوتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ حد درجہ رعایت کی
جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا اور مدینہ کی مسجد بنوی
میں پیشाब کرنے لگا۔ لوگ اس کو پکوڑنے اور مارنے کے لئے دوڑے۔ رسول اللہ صلی
الله علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے لوگوں کو منع فرمایا اور اس کو پیشاب کرنے سے نہ
اٹھایا۔ آپ نے کہا: اس اعرابی کو چھوڑ دو اور اس نے جہاں پیشاب کیا ہے وہاں
ایک ڈول پانی ڈال دو۔ کیوں کہ تم آسانی پیدا کرنے کے لئے بیچھے گئے ہو، تم مشکل
پیدا کرنے کے لئے نہیں بیچھے گئے (بخاری)

عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ زرم

بے اور سارے معاملات میں زمی کو پسند کرتا ہے (ان اللہ رفیق یحب الرفق فی
الاھر کلہ، متفق علیہ) یہ نرمی اور رعایت اسلامی سماج کی اہم ترین خصوصیت ہے۔
اسلامی سماج ایک با اصول سماج ہے مگر اسی کے ساتھ وہ حد درجہ نرمی اور رعایت کا
سماج ہے۔ مومن وہ ہے جو اپنے لئے شدت اور دوسروں کے لئے رعایت کو پسند
کرے۔

اسلامی سماج میں کم بولنے اور زیادہ عمل کرنے کا ماحول ہوتا ہے۔ انس رحمی اللہ
عنه کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کا انتقال ہوا۔ وہ ایک جبار میں لڑ کر مرا تھا۔ ایک شخص
نے کہا: اس کو جنت کی خوش خبری ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سناتوفیا:
تم کو کیا معلوم شاید وہ شخص بے فائدہ باتیں کرتا ہا ہو اور ایسے خرچ میں بخل کرتا رہا
ہو جس میں اس کا نقصان نہ تھا رعلہ تکلم، بالا یعنیہ او بخل بالا یعنیہ آنفی
اسی طرح ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا — اللہ تھا ری
صور توں کو نہیں دیکھتا وہ تھا رے عمل کو دیکھتا ہے (ان اللہ لا ینظر الی صور کم
و نکن ینظر الی احمال کم) اسلامی سماج بے حد سنجیدہ سماج ہوتا ہے۔ اس لئے وصال
کوئی شخص غیر ضروری کلام نہیں کرتا۔ ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ
کو ضروری کاموں میں مشغول رکھے۔

اسلامی سماج میں اپنی محنت پر بھروسہ کرنے کا ماحول ہوتا ہے۔ آدمی
انگ کر حاصل کرنے کے بجائے کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آدمی یہ نہیں سوچتا کہ جو
کچھ دوسروں کے پاس ہے وہ میں چھین کر یا مطالبہ کر کے حاصل کر لوں بلکہ ہر
شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو ہاتھ پاؤں اور دل و دماغ کی جو صلاحیت

دی ہے اس کو بر روتے کار لا کر اپنی زندگی اپنے آپ بناؤ۔

ابو عبد الرحمن عوف بن مالک اشجعی ضمہنتے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اور ہم تقریباً نو آدمی تھے۔ آپ نے فرمایا: کیا تم رسول خدا سے بیعت نہیں کرتے۔ چوں کہ، ہم جلدی بیعت کر چکے تھے، ہم نے کہا کہ اے خدا کے رسول ہم بیعت کر چکے ہیں۔ آپ نے دوبارہ فرمایا: کیا تم رسول خدا سے بیعت نہیں کرتے، ہم نے اپنے ہاتھ پھیلادئے اور کہا: اے خدا کے رسول ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ پھر ہم کس چیز پر بیعت کریں۔ آپ نے فرمایا: یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے۔ اور پانچ وقت کی نماز اور اطاعت۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: ولا تسألوا الناس شيئاً (اور تم لوگوں سے کوئی چیز نہ مانگو گے) راوی ہے یہ کہ ان میں سے بعض کو میں نے دیکھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہے اور اس کا کوڑا اگر گیا ہے تو وہ کسی سے مانگتا نہیں بلکہ اتر کر خود کوڑے کو اٹھاتا ہے (مسلم) اس کا مطلب ہے کہ اسلامی سماج میں مانگنے اور مطالہ کرنے کا ماحول نہیں ہوتا۔ ہر شخص اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے اور اپنی ذاتی محنت پر بھروسہ کرتا ہے۔

ایوقتادہ رضی اللہ عنہ ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ پر پایان لانا سب سے افضل اعمال ہیں۔ ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا: اے خدا کے رسول کیا اگر میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں تو میری خطاویں بخش دی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: ہاں، اگر تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ، اس

حال میں کتم صبر کرنے والے اور خالص اللہ کے لئے لڑنے والے ہو۔ آگے بڑھنے والے ہو پچھے بٹنے والے نہیں ہو تو تم بخش دئے جاؤ گے۔ کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا: تم نے کس طرح کہا تھا۔ اس نے اپنے سوال کو دہرا�ا۔ آپ نے دوبارہ اپنے جواب کو دہراتے ہوئے کہا: باں، اگر تم اللہ کے راستہ میں مارے جاؤ، اس حال میں کتم صبر کرنے والے اور خالص اللہ کے لئے لڑنے والے ہو، آگے بڑھنے والے ہو پچھے بٹنے والے نہیں ہو تو تم بخش دئے جاؤ گے۔ لیکن اگر تمہارے اوپر قرض ہے تو اس کی بخشش نہ ہوگی۔ کیونکہ ابھی جبریل نے مجھ کو یہ بتایا ہے

(الا للهِ دينُ فَانْ جَبْرِيلَ قَالَ لِي ذَالِكَ ، سلم)

اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی سماج میں ہر آدمی بے حد محنت ہوتا ہے کہ اس کے ذمہ کسی کا قرض یا حقوق باقی نہ رہ جائیں۔ ایک مسلمان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ دین کی راہ میں خواہ میں کتنی، ہی بڑی تدریبی کروں مگر اللہ کی نظر میں میری قیمت اسی وقت ہوگی جب کہ میں اللہ سے اس طرح ملوں کیسے نے کسی کا حق نہ دیا ہو، میرے ذمہ لوگوں کے مطالبات نہ ہوں۔ اگر میرے ذمہ کسی انسان کا حق ہے اور میں اس کو ادا نہیں کر ستاب تو دین کی راہ میں میرا جان دے دینا بھی مجھ کو آخرت میں بخات نہ دے سکے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو صدقہ کرو۔ ایک شخص نے پوچھا: اے خدا کے رسول اگر آدمی کے پاس مال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ پھر وہ لوگوں سے بھلی بات کہے۔ کیوں کہ وہ بھی صدقہ ہے۔ آدمی نے دوبارہ پوچھا: اے خدا کے رسول اگر اس کے پاس بھلی بات بھی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا: پھر وہ دوسروں کو اپنے

شر سے بچائے (يَدِعُ النَّاسَ مِنْ شَرٍ)، اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی سماج میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لئے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ اللہ نے اس کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ دوسروں کو دیتا رہے۔ اس کے قول، عل سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ اس کے بعد کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ذان سے کسی کو نقصان نہ پہنچنے دے۔ اگر وہ دوسروں کو کچھ نہ دے سکے تو وہ دوسروں کا محروم بھی نہ کرے۔ اگر وہ دوسروں کے کام نہ آئے تو دوسروں کے کام بھائیوں کی کوشش بھی نہ کرے۔ اگر دوسروں کے لئے اس کے پاس میٹھے بول نہ ہوں تو وہ ان کو کڑو بول بھی نہ دے۔

امام مالک نے موطا میں رد ایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا : مجھے ایسی بات بتائیے جس کے ساتھ میں جیوں (یا رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق نفیات بھن) آپ نے فرمایا غصہ نہ کر (لا تغضب) اس سے مسلم ہو اکہ اسلامی سماج ثابت نفیات رکھنے والوں کا سماج ہے۔ اس کے افراد ہر قسم کی متفق نفیات سے پاک ہوتے ہیں۔ غصہ ہر قسم کی متفق نفیات کی جزو ہے۔ ”غضہ نہ کر“ کا مطلب یہ ہے کہ متفق نفیات میں نہ چیز بلکہ ثابت نفیات میں چیزوں۔ دوسروں کی طرف سے اشتغال انگیزی ہو یا دوسروں سے تم کو تکلیف پہنچے تو اس کا جواب تم غصہ، نفرت، انتقام، حسد اور حقارت جیسے جذبات سے نہ دو بلکہ محبت، انصاف، خیرخواہی اور عفو و درگزر کا طریقہ اختیار کرو۔ جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے تو ٹھنڈے دل سے سوچو اور صرف وہ کرو جو اللہ کی رضا کے اعتبار سے سب سے بہتر ہونے کے وہ جس سے تمہارے بھر کتے ہوئے جذبات کو تکین مل

رسی ہو۔ کسی کے خلاف تمہاری کارروائی کا ردِ وادی نہ ہو بلکہ اللہ کی جواب
دہی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سوچی سمجھی کارروائی ہو۔ تمہاری غذا غصہ اور نفرت
اور انتقام نہ ہو، بلکہ برداشت کرنا اور معاف کر دینا ہو۔ تم غصہ نہ کرنے میں جیو،
نفرت نہ کرنے میں جیو، انتقام نہ لینے میں جیو، حسد نہ کرنے میں جیو۔

اسلامی معاشرہ میں جب ایک شخص دوسروں سے انصاف کرتا ہے اور
ان کے حقوق ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لئے عام معنوں میں بعض ایک اخلاقی یا انسانی
معاملہ نہیں ہوتا۔ یہ اس کے لئے ایسا سئلہ ہوتا ہے جس پر آخرت میں اس کی
نجات کا انحصار ہو۔ جو شخص بندوں کے ساتھ بہتر سلوک کرے وہی آخرت میں
اس قابل ٹھہرے گا کہ خدا اس کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ اور جو شخص دوسرے
انسانوں کے ساتھ بہتر سلوک نہ کرے اس کے لئے آخرت میں خدا کی رحمتوں میں کوئی
 حصہ نہیں۔

یہی دنیا کی زندگی میں آدمی کا امتحان ہے اور یہ امتحان خاص طور پر
کمزور اور بے ہمار انسانوں کے بارہ میں لیا جاتا ہے۔ یکوں کہ ایسے افراد کے
ساتھ بہتر سلوک کے لئے خدا کی رضا کے سوا اور کوئی فرک نہیں ہوتا۔ آدمی جب
طاقت ور کے ساتھ بہتر سلوک کرے تو اس میں یہ امید شامل رہتی ہے کہ
دوسرے شخص کی طرف سے کسی نکسی صورت میں اس کا بد لاء ملے گا۔ اسی طرح
جب کسی عوامی موقع پر آدمی انسانیت دوستی کا ثبوت دیتا ہے تو اس میں بھی یہ
امید ہوتی ہے کہ اس سے آدمی کی شہرت و عزت میں اضافہ ہو گا۔ گرچہ ایک تہنا
اور بے زور آدمی اس کے سامنے ہوا اور اس سے مدد کی درخواست کرے تو

وہاں اس قسم کی کوئی کشش موجود نہیں ہوتی۔ اور اگر یہ بے زور شخص ایک ایسا شخص
ہو جس سے آدمی کو تکلیف اور شکایت پہنچی ہے تو ایسے موقع پر یہ عدم جاذبیت ا
زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت جو آدمی بے غرض ہو کر اور شکایات سے اپر اٹھ کر
اس کی مدد کرتا ہے تو وہ خالص خدا کے لئے ایسا کو رہا ہے، کیوں کہ خدا کی رضا
کے سوا کوئی دوسری کمیونیٹی والی چیز وہاں موجود نہیں۔

جہاں ہر قسم کی دوسری کشش ختم ہو جائے وہاں خدا کی کشش موجود ہوتی۔
اور جو شخص خالص خدا کے لئے دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرے وہ خدا
کا محبوب ترین بندہ ہوتا ہے۔ وہ یعنی اس مقام پر خدا کو پالیتا ہے جہاں اس
نے خالص خدا کی خاطر کسی بندے کا آنسو پوچھا تھا۔

تقطیم

تہذیب

قرآن میں ارشاد ہوا ہے : اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد دیا اور ان میں بارہ نقیب مقرر کئے اور اللہ نے ان سے ہم کاہ میں تہارے ساتھ ہوں، اگر تو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور میرے رسولوں کو مانو اور ان کی مدد کرو اور اللہ کو قرض حسن دو۔ اگر تم ایسا کر د تو یقیناً میں تہاری برائیوں کو تم سے دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہ رہیں ہتھی ہوں گی۔ پس اس کے بعد تم بیس سے جس نے انکار کیا تو اس نے سوا السبیل کھو دی (مالدہ ۱۲۵)۔

ایک دانے کے اندر خدا نے ایک سربز پودا چھپا رکھا ہے اور ایک گھٹلی کے اندر ایک پورا درخت موجود ہے۔ مگر یہ امکانات صرف اس وقت بر روئے کاہ آتے ہیں جب کہ دانے یا گھٹلی کو مٹی میں ڈالا جائے۔ اگر ان کوشیش کی میز پر سب جا کر رکھ دیا جائے تو نہ دانے سے پودا نکلا گا اور نہ گھٹلی کبھی درخت کی صورت اختیار کرے گی۔ اسی طرح اللہ نے دنیا کی ہر چیز کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے۔ یہ قاعدہ ہمیشہ کے لئے اٹھ بے۔ ہر چیز اسی مقرر قاعدہ پر قائم ہوتی ہے۔ اور اسی کے مطابق بڑھتی ہے۔ اگر اس قاعدہ کی خلاف ورزی کی جائے تو کبھی مطلوبہ نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔

یہی معاملہ اسی زندگی کا بھی ہے۔ جو قوم آسانی کتاب کی حامل ہوا س کے لئے اللہ تعالیٰ کا مخصوص ضابط ہے۔ ایسی قوم کس طرح زمین میں جزو کوپوتی ہے اور دنیا و آخرت میں فلاح حاصل کرتی ہے، اس کا ضابط مذکورہ آیت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی قرآنی ضابط کو یہاں سوادِ البیل کہا گیا ہے۔

سوادِ البیل (اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ) یہ ہے کہ آدمی دنیا میں ایک قسم کی پابند زندگی گزارے۔ وہ اس طرح رہے گویا کہ وہ خدا کے عہد کی رسی میں بندھا ہوا ہے۔ اس عہد کی زندگی کی پہلی شرط، ایمان کے بعد، یہ ہے کہ آدمی نمازِ قائم کرے۔ یعنی اللہ کے آگے اپنے کو جھکا دے، وہ اللہ کی قربت تلاش کرنے والا بن جائے۔ پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ یعنی وہ دوسرے بندوں کا اس حد تک خیرخواہ ہو کہ اپنی کمائی میں ان کا لازمی حتیٰ سمجھنے لگے۔ پھر یہ کہ اللہ کے دین کی دعوت کے معاملے میں وہ غیر جانب دار نہ رہے، بلکہ اس میں اپنے آپ کو پوری طرح شامل کرے۔ وہ داعیان دین کی مدد کرے۔ اپنے بہترین اثاثہ کو اس کام کو موثر اور طاقت ور بنانے میں لگا دے۔ یہی وہ عہد کی زندگی ہے جو ہر فرد مسلم سے مطلوب ہے، اس زندگی کو اختیار کئے بغیر کوئی شخص خدا کی قربت و معیت حاصل نہیں کر سکتا اور نہ اس قابل قرار پاسکتا کہ خدا اس کی مدد کرے۔

اس خدا پرستا نزندگی کو اس کی صحیح صورت میں باقی رکھنے کے لئے تنظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ ہر مسلم معاشرہ کے اوپر خدا کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے دریان سمع و طاعت کا نظام قائم کرے۔ یعنی وہ اپنے اندر سے کچھ لوگوں کو اپنا سربراہ مقرر

کرے۔ اور جب ان کا تقریر ہو جائے تو ذاتی پسند و ناپسند کو نظر انداز کر کے وہ ان کی اطاعت کرے۔ نماز کی باقاعدہ اقامت، زکوٰۃ کی اجتماعی وصولی اور تقسیم، دعوت دین کا عمومی نظام، سب اسی وقت بہتر طور پر ادا ہو سکتے ہیں جب کہ مسلمانوں کے درمیان اجتماعی نظم قائم ہو، ان میں کچھ ایسے لوگ مقرر ہوں جو اس کی نگرانی کریں اور تمام لوگ اس کو ایک دینی فریضہ سمجھ کر اپنے سربراہوں کی اطاعت کریں۔

اس تنظیم سے مراد حکومتی تنظیم نہیں ہے بلکہ وہ تنظیم ہے جو ہر حال میں مسلمانوں کے اپنے بس میں ہے، خواہ ان کے پاس سیاسی اقتدار ہو یا نہ ہو۔ اسلامی تنظیم حقیقتہ ایک عبادت ہے اور عبادت وہی مطلوب اور نتیجہ خیز ہے جو اختیاری طور پر ہو نہ کہ کسی خارجی دباؤ کے تحت۔ اسلامی تنظیم دراصل اس بات کی ایک دنیوی علامت ہے کہ آدمی نے اپنے آپ کو خدا کے حکم کے حوالے کر دیا ہے۔ اسلامی تنظیم میں اپنے کو باندھنا گویا خدا کی اطاعت کے امتحان میں پورا اتر نہ ہے اور اسلامی تنظیم میں بندھ کے لئے تیار نہ ہونا گویا اس خدا کی امتحان میں ناکام ہو جانا ہے۔

مزیدیہ کہ سیاسی اقتدار بذات خود تنظیم کے وجود کا ضامن نہیں ہے حضرت عثمان رضا اور حضرت علی رضا کے زمانہ میں حکومتی اقتدار موجود تھا، اس کے باوجود مسلمانوں کی تنظیم منتشر ہو گئی۔ اسی طرح بعد کے دور میں بھی اس مشاہدیں دیکھی جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تنظیم سے مراد ویسی ہی ایک اختیاری تنظیم ہے جیسی کہ مسجد میں امام کی سربراہی میں نماز کی جماعت بندی کے لئے ہر روز ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی خاطر اپنی آزادی پر پابندی لگانا ہے۔ یہ تمام تر ایک اختیاری تنظیم ہے اور اس کا ثواب کسی آدمی کو صرف اس وقت ملے گا جب کہ اس نے اپنے آزاد ارادہ سے

اس کی تھتی قبول کی ہو۔ جبکے تحت قائم شرطیت بعض دنیوی فائدے دے سکتی ہے مگر وہ آدمی کو خدا کے یہاں ثواب کا مستحق نہیں بناتی، نہ اس سے وہ برکتیں ظاہر ہو سکتیں جو حقیقی اسلامی تنظیم کے لئے خدا نے مقدر کی ہیں۔

دور نبوت میں اس قسم کی تنظیم کی ایک مثال وہ ہے جو اہدانا زمانہ میں مدینہ میں اختیار کی گئی۔ بھرت سے پہلے مدینہ کے ۲۷ آدمی مکہ پہنچے اور آپ سے بیعت ہوئے۔ اس وقت مدینہ میں اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی۔ مگر آپ نے بیعت کے بعد ان سے کہا کہ تم لوگ بارہ آدمی منتخب کرو جن کو میں تمہارے اوپر نقیب (نگراں) بنادوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اندر سے بارہ آدمی چھنے۔ آپ نے ان کو مدینہ کے سماں نوں پر نگراں مقرر کر دیا اور کہا کہ تم اپنی قوم کی اجتماعی دیکھ بھال کے ذمہ دار ہو (انتم کفلا علی قومکم)

مسلمان عرب سے نکل کر جب مختلف ملکوں میں گئے تو اسی طرح وہ اپنی تنظیم بن کر اس کی تھتی میں منظم زندگی گزارتے رہے۔ جب تک انہوں نے ایسا کیا ان کے اوپر خدا کا سایہ باقی رہا۔ جب انہوں نے تنظیمی پابندی قبول کرنے سے انحصار کر دیا تو خدا کا سایہ بھی ان کے اوپر سے اٹھ گیا۔ اور حکومتی اقتدار کے باوجود وہ دوسری قوموں کے حوالے کر دئے گئے۔

جو لوگ پہنچ آزاد ارادہ سے اپنے کو ایک اسلامی تنظیم کا پابند کر لیں وہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ وہ بے نفس لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کی غا طریقہ اپنی انسانیت کو ختم کر دیا ہے۔ اس طرح اپنے آپ کو بے نفس بنالینا موجودہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ کی نظر میں جو لوگ اس معیار پر پورے اتریں ان

کے لئے وہ اپنی ہر قسم کی نعمتیں انڈھیل دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت اور غلبہ حاصل کرتے ہیں اور آخرت کی سرفرازی بھی ان کے لئے مقدر کردی جاتی ہے۔ جو لوگ بے نفسی کی حد نکل خدا کے فرماں بردار بن جائیں ان کے ساتھ جب کوئی صحیح بات آتی ہے تو وہ فوراً اس کو مان لیتے ہیں۔ ان کا باہمی اتحاد کبھی نہیں ٹوٹتا۔ وہ انصاف کے راستے کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ ان کی بے نفسی ان کو ہر اس چیز کی طرف بڑھنے سے روک دیتی ہے جو دنیا و آخرت میں برباد کرنے والی ہیں حقیقت یہ ہے کہ دنیا و آخرت کی تمام بھلاکیوں کا راز بے نفسی ہے۔ اور کوئی آدمی بے نفس بنائے یا نہیں، اس کا سب سے بڑا ثبوت تنظیم کے ذریعہ ملتا ہے۔ تنظیمی زندگی میں اپنے آپ کو باندھنا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ آدمی نفاذی فرکات سے اور پر اٹھ گیا ہو۔ وہ تنقید اور تعریف سے بلند ہو۔ وہ اختلاف اور اتفاق کی بنیاد پر نہ بنتا ہو۔ وہ اس سے بے نیاز ہو چکا ہو کہ اس کو کہیا ملا اور کیا نہیں ملا۔ تنظیمی زندگی میں اس طرح کے موقع بار بار آتے ہیں۔ اگر آدمی ان چیزوں سے اور پر اٹھا ہوا نہ ہو تو وہ اسی قسم کی باتوں میں الجھ کر رہ جائے گا اور تنظیم کی پابندی کو قبول کرنے میں ناکام رہے گا۔

اللہ کے مومن بندوں پر اللہ کی دوسرے بڑی نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ خدا کی نصرت کے متعلق بن جاتے ہیں، وہ دنیا میں اپنے مخالفین کے مقابلہ میں خدا کی مدد سے غالب آتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ موت کے بعد وہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دئے جاتے ہیں۔ اللہ کی یہ دونوں نعمتیں صرف ان لوگوں کے لئے ہیں

جو اللہ کی خاطر اپنی انفرادیت کو ختم کر کے اجتماعیت کے بندھن میں بندھ جائیں۔
اور اس کے تحت اپنی دینی اور اخلاقی زندگی کو منظم کریں۔

جو لوگ اپنے آپ کو اللہ میں اس طرح شامل کر لیں کہ اپنی انفرادیت کو
وہ اس کے حوالے کر دیں، ان کی طاقت بے پناہ ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ ان کے
درمیان وہ تمام اسباب بالکل ختم ہو جاتے ہیں جو ایک کو دوسرے سے جدا کرنے
والے ہیں۔ اجتماعیت کو تزویٹ نے والی چیز انفرادیت پر اصرار ہے۔ اور اپنی
انفرادیت کو اللہ کے حوالے کر کے پہلے ہی وہ اس سے اوپر اٹھ چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کا
پورا گروہ ایک متحده طاقت ہے جس کی مدد ہو جاتا ہے۔ اور جہاں اتحاد ہو وہاں مغلوبیت
کا گزرنہ ہے۔

اسلام سے پہلے عرب میں قبائلی دور تھا۔ یہ قبیلے الگ الگ آباد تھے۔ ان کے درمیان
وحشت کا راجح تھا۔ وہ اکثر ایک دوسرے کے مخالف رہتے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جب ان کو خدا کے دین کی دعوت پہنچی تو وہ اسلام کے دائرہ
میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی آپس کی رڑائیاں ختم ہو گئیں۔ وہ آپس میں بھائی
بھائی کی طرح مل کر رہے ہیں۔


اس کی وجہ مزاج کا فرق ہے۔ غیر اسلام میں ہر آدمی پہنا وفا دار رہتا ہے۔ اور
اسلام میں صرف ایک اللہ کا۔ جس سماج میں لوگ اپنے یا اپنے گروہ کے وفادار ہوں،
وہاں قدرتی طور پر کئی وفا دار یا وجود میں آتی ہیں۔ اور کئی وفا دار یوں کے عکس
نتیجہ ہی کا نام اختلاف اور انتشار ہے۔

اس کے بر عکس جس معاشرہ میں تمام لوگ ایک خدا کے وفادار بن جائیں، وصال

سب کا رخ صرف ایک مرکزی، سنتی کی طرف ہو جاتا ہے۔ سب ایک رسی سے بسندھ
جاتے ہیں۔ اس طرح آپس کے اختلاف اور انتشار کے اسباب اپنے آپ ختم ہو جاتے ہیں۔
جو لوگ انفرادی قربانی کی سطح پر دین کو اختیار کر لیں، ان کی زندگی خدا
رنجی زندگی بن جاتی ہے۔ وہ اس شاہراہ پر چل پڑتے ہیں جو خدا کی قربت
اور اس کی جنت کی طرف جانے والی ہے۔ ان کا سفر کبھی کھوٹا نہیں ہوتا، وہ
کبھی راستہ کے دائیں بائیں نہیں مرتے۔ وہ دین کے یہدیہ راستے پر چلتے رہتے
ہیں۔ یہاں تک کہ خدا کی جنت یہیں پہنچ جاتے ہیں۔



اسلام کی افاقتیت



اسلام کی آفاقیت

اسلام کا آغاز ۶۱۰ء میں ہوا۔ اس وقت عرب کے شہر شرہب (مدینہ) میں دو قبیلے آباد تھے۔ ایک اوس اور دوسرے خزرج۔ یہ دونوں قبیلے ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ مگر جب ایسا ہوا کہ ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دینِ توحید کی حقیقت کھلی اور وہ اسلام کے دائرہ میں داخل ہوئے تو ان کی آپس کی لڑائیاں ختم ہو گئیں۔ دو دشمن گروہ ایک دوسرے کے دوست گروہ بن گئے۔ جو لوگ اپنے اپنے ذاتی مفاد کے لئے آپس میں لڑتے رہتے تھے، وہ اب متعدد ہو کر بلند تر انسانی مفاد کے مجاہد بن گئے۔

پہلے اور بعد میں یہ فرق کیوں ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے دونوں قبیلے صرف اپنی بڑائی کو جانتے تھے۔ اوس کا قبیلہ خزرج پر بڑا بنتے کی کوشش کرتا اور خزرج کا قبیلہ اوس کے اوپر بڑا بنتا چاہتا۔ اس طرح دو بڑائیاں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی رہتی تھیں اور ان میں کبھی موافقت اور ہم آہنگی کی نوبت نہیں آتی تھی۔ مگر جب انہوں نے اسلام کے ذریعہ ایک خدا کی بڑائی کو دریافت کیا تو ان کی اپنی الگ الگ بڑائیاں ختم ہو گئیں اور صرف ایک سب سے اپنی بڑائی باقی رہی۔ پہلے دونوں قبیلے غیر مشترک بڑائیوں میں جی رہے تھے، اب دونوں ایک ہی مشترک بڑائی میں جینے

لگے۔ یعنی خدا کی بڑائی، جس سے بڑا اور کوئی نہیں۔

یہ ہے سب سے بڑی آفاقیت جو اسلام انسان کو عطا کرتا ہے۔ اسلام انسان کو توحید کا عقیدہ دیتا ہے۔ یعنی یہ کہ خدا ایک ہے۔ وہی سب کا خالق ہے۔ وہی سب کا مالک ہے۔ وہی سارے عالم کا نظام چلا رہا ہے۔ خدا ہی کے دست سے آدمی کو ملتا ہے۔ خدا نے تو کوئی شخص کچھ بھی نہیں پاسکتا۔ خدا الامد و دہے اور بقیہ تمام چیزیں محدود۔ یہی توحید ہے، اور یہ توحید اسلامی آفاقیت کی بنیاد ہے۔

جب آدمی اس کامل توحید کو اختیار کرتا ہے تو اس کی نظر میں ساری بڑائی صرف ایک خدا کے لئے ہو جاتی ہے۔ بقیہ تمام چیزیں اس کی نظر میں یکساں ہو جاتی ہیں۔ انسانوں کے درمیان جو طرح طرح کے اونچ پیش ہیں وہ اس کو مصنوعی نظر آنے لگتے ہیں۔ انسانوں کے درمیان جو مختلف قسم کی دیواریں اٹھادی گئی ہیں وہ سب ڈھ جاتی ہیں۔ ذات اور رنگ اور نسل اور جغرافیہ اور اس قسم کی دوسری بُنیادوں پر ایک انسان اور دوسرے انسان میں جو فرق کیا گیا ہے وہ سب مست جاتا ہے۔ ہر انسان بُننے والے اور ایک خدا سب کا معمود۔

خدا کو پانے سے پہلے آدمی ایک انسان کو دوسرے انسان کی نسبت سے دیکھتا ہے۔ یہ چیز انسانوں میں تفریقی کی ذہنیت پیدا کرتی ہے۔ کیوں کہ وہ پاتا ہے کہ بظاہر ایک انسان اور دوسرے انسان میں فرق ہے۔ کوئی کمزور ہے اور کوئی طاقت ور۔ کوئی غریب ہے اور کوئی دولت مند۔ کوئی چھوٹا ہے اور کوئی بڑا۔ مگر یہ تمام فرق صرف اس وقت تک ہیں جب تک انسان کو انسان کی نسبت سے دیکھا جائے۔ جب انسان کو خداوند عالم کی نسبت سے دیکھا جانے لگے تو سارے فرق اپنائک ختم

ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ خدا کے مقابلہ میں کوئی طاقت ور نہیں، خدا کے مقابلہ میں کوئی دوست نہیں۔

خدا تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ خدا کے مقابلہ میں بڑا بھی اتنا ہی چھوٹا کوئی چھوٹا۔ خدا کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ جب وہ سامنے آجائے تو اس کے مقابلہ میں تمام انسان اپنی عظمت کھو دیتے ہیں، اس کے بعد تمام کے تمام انسار یکساں ہو گکر رہ جاتے ہیں۔ سورج ظاہر نہ ہو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چراغ کم روشن ہے اور سرچ لاٹ زیادہ روشن۔ مگر جب سورج اپنی تابانیوں کے ساتھ ظاہر ہو تو چراغ اور سرچ لاٹ کا فرق مت جاتا ہے۔ اب ایک طاقت ور بلب بھی اتنا ہے جو لوز نظر آنے لگتا ہے جتنا ایک معمولی چہرہ۔ سورج کے سامنے ایک اور دوسرے میں کوئی فرق نہیں۔

توحید کا عقیدہ آدمی کے اندر یہی دیس ڈھن پیدا کرتا ہے۔ وہ ایک عظیم بڑائی کے مقابلہ میں تمام دوسری بڑائیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اب ایسا ہو جاتا ہے کہ جس خدا کی طرف ایک انسان دوڑتا ہے اسی خدا کی طرف سارے انسان دوڑنے لگتے ہیں۔ جس خدا کے سامنے ایک انسان اپنی بڑائی کو چھوڑتا ہے۔ اس کے سامنے تمام انسار اپنی بڑائی کو چھوڑنے والے بن جاتے ہیں۔ توحید کے بغیر ہر انسان کی توجہ کا مرکز الگ ہوتا ہے، توحید کے تحت ہر آدمی کی توجہ کا مرکز ایک ہو جاتا ہے۔ یہ بلاشبہ سب سے بڑی آفاقیت ہے، اس سے بڑی آفاقیت اس دنیا میں کوئی اور بغیر ہو سکتی۔

عرب قوم ہزاروں سال سے عرب کے جغرافیہ میں آباد تھی۔ مگر تاریخ میں اس کا

کوئی کار نامہ لکھا نہ جاسکا۔ اسلام سے پہلے عربوں کا حوالہ یہ تھا کہ وہ شاعری کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی ہاتوں پر آپس میں لٹجاتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ان کے درمیان ایک لڑائی پھر تی تو وہ نسل در نسل سیکڑوں سال تک جاری رہتی۔ محدود دائرة سے باہر اس وقت ان کی کوئی زندگی نہ تھی۔

مگر یہی عرب تھے کہ جب اسلام کے زیر اثر ان کے اندر فکری انقلاب آیا تو انہوں نے ایک عالمی تہذیب کی بنیاد ڈالی۔ وہ اپنے محدود جغرافیہ سے نکل کر سارے عالم میں پھیل گئے۔ جو لوگ اس سے پہلے ناقابل ذکر سمجھے جاتے تھے انہوں نے تمام قابل ذکر عالم میں اپنے وقت کی سب سے بڑی ترقیاں کیں۔ عربی زبان جو اس سے پہلے صرف ایک مقامی بولی کی حیثیت رکھتی تھی وہ ایک بین الاقوامی زبان بن گئی۔ تنگ دنیا میں جیسے والے وسیع تر دنیا کے مالک بن گئے۔

اس کی وجہ اسلام کی آفاقیت اور عالمگیریت تھی۔ اسلام نے ان کے بند ذہن کو کھول دیا۔ وہ نیچر کو پوچھتے تھے، اسلام نے بتایا کہ نیچر مخلوق ہے اور بے بس ہے۔ پوچھنے کے قابل تصرف خدا کی ذات ہے جو تمہارا اور تمام دنیا کا مالک ہے۔ اس سے ان کے اندر یہ ذہن پیدا ہوا کہ نیچر جنکن کی چیز نہیں ہے بلکہ ایسی چیز ہے جس کو جھکایا جائے، جس کی تحقیق اور تسمیہ کی جائے۔ وہ انسان کو عرب اور عجم، کامل اور گورے، آزاد اور غلام، اور پنی نسل اور پنی نسل میں بانٹے ہوئے تھے۔ اسلام نے ان پر کھولا کہ تمام انسان ایک خدا کے بندے اور ایک آدم کی اولاد ہیں، ایک انسان اور دوسرے انسان ہیں کوئی فرق نہیں۔ اس سے ان کے اندر وہ عالمی اور آفاقی ذہن پیدا ہوا جس نے پوری دنیا کو اپنا دھن اور ساری انسانیت کو اپنا کہنہ سمجھ لیا۔ اسلام سے پہلے وہ دنیا سے الگ

تھلک ہو رہے تھے۔ اسلام کے بعد وہ ساری دنیا کے شریک اور ساتھی بن گئے۔

اسلام سے پہلے عرب کے لوگ قبائلی دور میں جی رہے تھے، اسلام کی بنیاد پر جب ان کے یہاں فنکری انقلاب آیا تو اس نے ان کو ایک بین اقوامی گروہ بننا دیا۔ اس سے پہلے ان کی نظر چھوٹے چھوٹے مقاصد تک محدود تھی، اسلام کے بعد ان کی نکاح میں اتنی وسعت پیدا ہوئی کہ وہ خشکی اور تری کو پار کر کے ساری دنیا تک وسیع ہو گئی۔ اسلام سے پہلے وہ کسی کو حقیر اور کسی کو معزز سمجھتے تھے، اسلام کے بعد تمام انسانی نسل یکماں طور پر ان کی نظر میں معزز اور محترم ہو گئی۔ اس کے بعد کوئی پیسا ڈرہ رہا جو ان کی نظر کو روکے اور کوئی سست دردرہ با جوان کے سفر میں حائل ہو۔

اسلام نے عربوں کے اندرجہ آفاقیت پیدا کی توان کا یہ حوالہ ہوا کہ قبیلہ کی سرداری پر غزر کرنے والے لوگ عالم کے امام بن گئے۔ ان کے اندر ابن سینا اور الرازی جیسے ماہرین طب پیدا ہوئے جن کی طبی کتب ابتوں کے یورپ کی زبان (لاتین) میں ترجمے ہوئے اور یورپ کے میڈیکل کالجوں میں وہ بطور نصیاب داخل کی گئیں۔ ان میں الادریسی جیسا جغرافیہ دال پیدا ہوا جس نے سملی کے بادشاہ راجہ دوم کے لئے سب سے پہلا دنیا کا نقشہ بنایا۔ ان میں ایسے ماہرین صنعت پیدا ہوئے کہ انگلینڈ کے بادشاہ اوفارکس نے اپنے یہاں سونے کا سکہ ڈھانلنے کے لئے بغداد سے سکہ گرفتار ہوتے۔

انہوں نے فن جہاز رانی میں اتنی ترقی کی کہ ان کے یہاں احمد بن ماجد جیسا شخص پیدا ہوا جس نے واسکو ڈی گاما کی بحری رہنمائی کی جو پسند رہیں صدی عیسوی کے آخر میں یورپ اور ہندستان کے درمیان سمندری راستہ دریافت

کرنے کے لئے نکلا تھا۔ ان کے یہاں ابو عبیدہ مسلم البلنی جیسے زینی علوم کے ماہر پیدا ہوئے جن کی تحقیقات کو پڑھ کر کولیس کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ یہاں کچھ اور بھی دنیا میں یہیں جن کو اسے دریافت کرنا چاہئے۔ چنانچہ اس شعور اور حوصلہ کے تحت وہ ملورپ کے ساحل سے روانہ ہوا اور آخر کار نئی دنیا (امریکہ) کو دریافت کی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام ایک کائناتی دین اور ایک آفاقتی نظریہ ہے۔ اور اسلام کی بنیاد پر بننے والی تاریخ اس کی تاسیس کرتی ہے۔ اسلام کی آفاقتیت صرف نظریاتی چیز نہیں، وہ ایک ثابت شدہ تاریخی حقیقت ہے۔ یہ ایسے اصول ہیں جو پوری طرح عمل کی صورت میں ڈھن چکے ہیں۔

اسلام کے آفاقتی اصولوں کا بہت اچھا اظہار اس واقعہ میں ہوتا ہے جس کا تعلق ربی بن عاصم رض اور رستم (ایرانی سردار) سے ہے۔ عرب جب قدیم ایران میں داخل ہوئے اور ایرانیوں کو ہرجگہ ان کے مقابلہ میں شکست کھانی پڑی، تو رستم نے گفت و شنید کے لئے اسلامی و فود کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اس وقت جو لوگ رستم اور شاہ ایران کے دربار میں گئے، ان میں سے ایک ربی بن عاصم تھے۔ ربی بن عاصم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رستم کے دربار میں پہنچے۔ رستم اس وقت ایرانی افواج کا سپہ سالار تھا۔ وہ اپنے شاندار دربار میں سونے اور جواہرات کا تاج پہنے ہوئے عالی شان تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اور ربی بن عاصم معمولی کپڑے اور معمولی حالت میں تھے۔ رستم نے پوچھا کہ تم لوگ ہمارے ملک میں کیوں آتے۔ ربی بن عاصم رض نے جواب دیا:

اللَّهُ أَبْتَعَثَنَا وَاللَّهُ جَاءَ بِنَا لِنَخْرُجَ مِنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ

اللہ و من ضيق الدنیا الی سعتها و من جو را کا دیان الی عدل الاملاہ
اللہ نے ہم کو بھجا ہے اور اللہ ہم کو یہاں لے آیا ہے تاکہ جس کے بارہ میں وہ چلے
اس کو بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں داخل کریں اور دنیا کا
تیگ سے نکال کر اس کو اس کی وسعت میں پہنچا دیں۔ اور نماہب کی زیادتوں سے
چھکارا دے کر اس کو اسلام کے عدل و انصاف میں لے آئیں۔

ربی بن عاصم رضی نے اپنے اس قول میں نہایت مختصر طور پر مگر نہایت فصاحت
کے ساتھ اسلام کے آفاقی اصولوں کو بیان کر دیا ہے۔

اسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر جب ایک شخص کے اندر فکری انقلاب آتا ہے تو
مخوفات سے گزر کر خانق کو پایتا ہے۔ وہ کائنات کے مالک کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے
جو تمام تنگیوں اور محدودیتوں سے بند ہے۔ اس سے پہلے وہ بندوں کی سطح پر جی رہا تھا
اب وہ خدا کی سطح پر جیئن لگتا ہے جو تمام آفاق سے اوپر ہے۔ اس سے پہلے اگر وہ ایک
خول کے اندر تھا تو اب وہ خول کے باہر کی وسیع دنیا میں اپنے نئے زندگی کے موقع پا گی
۔ ۴۔

عام حالت میں آدمی بندوں میں الٹکا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کی
طرف متوجہ رہتا ہے۔ وہ بس اپنے قدر مولوں کے نیچے کی زمین کو جانتا ہے۔ مگر جب وہ نہ
کو پاتا ہے اور خدا کا عبادت گزار بنتا ہے تو وہ انسانوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ انسان
دوستیاں اور دشمنیاں اس کی نظر میں حقیر بن جاتی ہیں۔ وہ انسانی شکایتوں اور انسان
محبتوں سے گزر جاتا ہے۔ اس کی رو� لامدد و دپنہایوں میں سفر کرنے لگتی ہے جہاں چھوڑ
چھوٹی چیزوں میں اُنجھنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔

خدا کو پانے سے پہلے آدمی دنیا کی محدودیتوں میں گم رہتا ہے۔ خدا کو پانے کے بعد وہ دنیا کی محدودیتوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ وہ اپنی آرزوں اور اپنے حوصلوں کی تسلیک کے لئے ایک بلند تر سطح پالیتا ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں کھونا بھی پانا بن جاتا ہے۔ جہاں ناخوش گواریاں بھی خوش گواریوں میں ڈھل جاتی ہیں۔ جہاں غم بھی اتنا ہی اہم بن جاتا ہے جتنا خوشی اور سرت۔

پھر اسلام آدمی کو انسانی مو شگافیوں والے دین سے بکالتا ہے۔ وہ آدمی کو جھوٹے رسم و رواج والے مصنوعی دین سے باہر لاتا ہے۔ وہ اس کو اس سچے دین سے آشنا کرتا ہے جہاں ایک طرف انسان ہوتا ہے اور دوسری طرف خدا۔ جہاں خدا اور بندے کے درمیان کوئی دوسری چیز حائل نہیں، جہاں خدا سے ملنے کے لئے رسم و رواج کے بندھنوں میں اپنے کو باندھنے کی ضرورت نہیں۔

خدا ہر آن اپنے بندوں تک پہنچا ہوا ہے، اسی طرح خدا کے بندے بھی ہر آن خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ خدا اور بندے کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، اس لئے خدا اور بندے کے ملاپ کے لئے کسی درمیانی واسطہ کی ضرورت بھی نہیں۔ انسان جب اس ابدی دنیا میں پہنچتا ہے تو وہ خدا کو بھی میں اسی مقام پر پالیتا ہے جہاں وہ خود کھڑا ہوا ہے۔

اسلام توحید کا دین ہے۔ اسلام میں خدا ایک ہے اور ساری خدائی بھی اسی ایک ذات کو حاصل ہے۔ جو لوگ اس خالص توحید کو پالیں وہ ایسی لامحدود دنیا میں پائی جاتے ہیں جہاں آفاقیت ہی آفاقیت ہے، اور جہاں ابدیت ہی ابدیت۔

مصنف کی دوسری تصنیفات

| مصنف کی دوسری تصنیفات | اردو مطبوعات |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| امکانات جدید الدعوة | اسلام پدر حسین صدیقیں |
| الشريعة الإسلامية وتحديات العصر | رہیں بن ہنیں |
| السلمون بين المحن والحال والمستقبل | ایمان طاقت |
| نحویت اسلامی | اتحاد ملت |
| وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية | بین آموز واقعات |
| العلم على خطى الدين | عظیت قرآن |
| لابد من الثورة الفکریة | زلزلہ قیامت |
| قبل الثورة التشريعیة | حقیقت کی تلاش |
| العقل في مواجهة التحديات العصرية | پیغمبر اسلام |
| ہندی مطبوعات | آخری سفر |
| انسان اپنے آپ کو ہیچان | تعارف اسلام |
| منزل کی اور | تعییمات اسلام |
| نویگ کے پروش دواریں | اسلامی دعوت |
| سچائی کی کھوچ | خدا اور انسان |
| انگریزی مطبوعات | حلیہاں ہے |
| | سچاراستہ |
| | دینی تعلیم |
| | حیاتِ طبیب |
| | باعِ جنت |
| | ناجسم |
| | دین کی سیاسی تعبیر |
| Arabic Books | عربی مطبوعات |
| | الاسلام بتحدى |
| | الدين في مواجهة العلم |
| | حكمة الدين |
| | الاسلام والعصرا الحديث |
| | مسئولیات الدعوة |
| | نحو تدوین جدید للعلوم الاسلامية |
| Uhammad: The Prophet of Revolution | اسلام و دین فطرت |
| iod Arises | تعمیر ملت |
| Ian! Know Thyself | تاریخ کا بین |
| Uhammad: The Ideal Character | مزہب اور سائنس |
| The Way to Find God | عیلیات اسلام |
| The Teachings of Islam | فدادات کاملہ |
| The Good Life | انسان اپنے آپ کو ہیچان |
| The Garden of Paradise | |
| The Fire of Hell | |
| 'ablig Movement | |
| Islam in Harmony with Human Nature | |
| The Final Destination | |
| No End to Possibilities | |
| The Achievement of Islamic Revolution | |
| Religion and Science | |
| The Prophet and his Companions | |